

Hisnul muslim

Kitaaba kana keessatti zikrii
ganamaaf galgalaa tiifii duaaiiwwan
adda addaa barbaachiftu ibsamee
jira

<https://islamhouse.com/9705480>

- Hisnul Muslim
- إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ،
 - ١. Dursa
 - ٩. ٩. Zikrii yeroo hirriba irraa dammaqanuu
 - ٩. ٩. Du'aa'ii huccuu uffachuu

- ٨. ٩. Du'aa'ii huccuu haaraa uffachuu
 - ٩. ٩. Du'aa'ii nama huccuu haaraa uffateef godhamu
 - ﴿ ٩ - جَدِيدًا وَ عِشْنٌ ﴾ (٩٦) .
﴿ حَمِيدًا وَ مُتْ شَهِيدًا ﴾ (٩٧) .
 - ٩. ٨. Waan yeroo huccuu baasan jedhamu
 - ٩. ٩. (بِسْمِ اللّٰهِ) (٢٨) . - ٩
 - ٩. ٩. Du'aa'ii yeroo mana fincaanii seenanii
 - ٩. ٩. Du'aa'ii yeroo mana fincaaniitii bahanuu
 - ١١ - (غُفْرَانَكَ) (٣٢) .
 - ١٠. Zikrii wuduu dura godhamu

- ١٢. بِسْمِ اللَّهِ ((٣٤)) .
- ٢٠. ٢٩. Zikrii wuduu
booda godhamu
- ٢١. ٢٧. Zikrii yeroo
manaa bahan jedhamu
- ٢٢. ٢٥. Zikrii yeroo mana
seenan jedhamu
- ٢٣. ٢٨. Du'aa'ii yeroo
masjida deemanuu
- ٢٤. ٢٩. Du'aa'ii yeroo
masjida seenanuu
- ٢٥. ٣٠. Du'aa'ii yeroo
masjidaa bahanuu
- ٢٦. ٣١. Zikrii yeroo
azaanaa godhamu
- ٢٧. يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤْذِنُ (٩٩) (٢)
عَلَى الصَّلَاةِ وَحَيَّ عَلَى إِلَّا فِي ((حَيَّ

إِلَّا الْفَلَاحُ)) فَيَقُولُ: ((لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
(بِاللَّهِ)) ([٦٨]).

- ٩٩. ٩٠. Du'aa'ii salaanni
ittiin banamu
- ٩٧. ٩١. Du'aa'ii rukuu'aa
- ٩٥. ٩٩. Du'aa'ii yeroo
rukuu'a irraa ka'anuu
- ٩٠. ٢٣ Du'aa'ii sujuudii
- ٩٤. ٨٢-٩٢. رَبِّيَ الْأَعْلَى)) سُبْحَانَ)) (٩٠٦) [٣٠٦].
- ٩٢. ٢٥ Du'aa'ii jidduu
sujuuda lamaanii
- ٩٩. ٩٩. Du'aa'ii sujuudii
yeroo Qur'aanni qara'amuu
- سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، () ٨٠-٩٩. بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، (فَتَبَارَكَ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ
(اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)) ([٢٩٩١]).

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ ((٩)) - ٨٦ . ٩٢ .
بِهَا وَزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي
مِنْ عِنْدَكَ دُخْرًا، وَتَفَقَّلْهَا مِنْيٰ كَمَا تَفَقَّلْتَهَا
((عِنْدَكَ دَاءٌ دَوْدَ ([٩٨]))).

- ٩١. ٩٤. Tashahhuda
- ٩٤. ٣٠ Tashahhuda
booda Nabiyyii (saw) irratti
salawaata buusuu
- ٩٨. ٣١ Du'aa'ii
tashahhuda boodaa keessatti
salaamtaa dura godhamu
- ٩٩. ٣٢ Zikrii yeroo
salaata irraa salaamtaa
bahanii
- ٩٩. ٩٩. Du'aa'ii salaata
Istikhaaraa [٩٠]

- ۹۷. ۳۸. Zikriiwwan ganamaafi galgalaa
- ۹۸. ۳۹. Zikriiwwan hirribaa
- ۹۹. ۳۶. Du'aa'ii yeroo hirriba keessa gara galanii
- ۱۰۰. ۳۷. Du'aa'ii naasuu hirriba keessaafi nama bineensa wahitiin rifatee
- ۱۰۱. Waan namni abjuu fokkataa arge hojjatu۲۰۰۰-يَنْفُتُ عَنْ يَسَارِهِ (۲۰۰۰) (۳۷).
- ۱۰۲. ۳۸. Du'aa'ii qunuutii witrii
- ۱۰۳. ۳۹. Zikrii yeroo witrii irraa salaamtaa bahanii

- ۱۸. . ئ دۇا'ىي
yaaddoofi gaddaa
- ۱۹. . ئ دۇا'ىي يەرۇو
Cinqii
- ۲۰. . ئ دۇا'ىي يەرۇو
diinaafi abbaa taayitaa
qunnaman godhamu
- ۲۱. . ئ دۇا'ىي ناما
miidhaa mootii sodaatee
- ۲۲. . ئ دۇا'ىي دىىن
irratti godhamu
- ۲۳. . ئ وان نامنى
ummata wahii sodaate jedhu
- ۲۴. . ئ دۇا'ىي ناما
shakkiin iimaana keessatti
isa mudatee

- ۸۹. . ؓ Du'aa'ii hidaa kaffaluu
- ۸۱. ۸۱. Du'aa'ii woswaasii salaataafi Qur'aana keessatti nama mulateef godhamu
- ۸۸. ۸۲. Du'aa'ii nama dhimmi wahii itti ulfaate
- ۸۸. ۸۰. Waan namni yakka hojjate jedhuufi hojjatu
- ۸۹. ۸۱. Du'aa'ii shayxaanaafi woswaasii isaa ari'u
- ۸۹. ۸۹. Du'aa'ii namni wanti inni hin feene itti argame godhu

- ٨٧. ٨٩. Waan nama
daa'imni dhalateef ittiin
eebbisaniifi deebii isaa
- ٨٨. ٨٨. Waan ilmaan
ittiin tiksan
- ٨٠. .٠٠ Du'aa'ii yeroo
dhukkubsataa gaafatan
godhamuuf
- ٨٩. .٠٧ Sadarkaa
dhukkubsataa gaafachuu
- ٨٩. .٠٧ Du'aa'ii
dhukkubsataa jirenya irraa
abdii kutee
- ٨٩. .٠٨ Nama duuti itti
dhufe laqqansiisuu
- ٨٨. .٠٩ Du'aa'ii nama
rakkoon isa mudatee

- ٨٨. .၏ Du'aa'ii yeroo ija
du'aa gadi qaban jedhamu
- ٨٩. .၏ Du'aa'ii yeroo
janaazaa irratti salaatanuu
- ٩٠. ၅၉. Du'aa'ii ilmoo
du'eef godhamu salaata
irratti salaatamu keessatti.
- ٩١. ၅၁. Du'aa'ii taaziyaa
(gaddaa)
- ٩٢. ၅၂. Du'aa'ii yeroo
du'aa qabrii galchan
godhamu
- ٩٣. ၅၃. Du'aa'ii erga
du'aa awwaalanii godhamu
- ٩٤. ၅၄. Du'aa'ii yeroo
qabrii ziyaaranii

- ۹۹. ۹۹. Du'aa'ii yeroo qilleensaa
- ۹۱. ۹۱. Du'aa'ii kakawwee (mandiisuu)
- ۹۸. ۹۸. Du'aa'ii istisqaa'ii (rooba barbaachaa)
- ۹۸. ۹۰. Du'aa'ii yeroo roobni roobu godhamu
- ۹۹. .۷۱ Zikrii booda roobni roobee jedhamu
- ۹۹. ۹۹. Du'aa'ii rooba sirreessuuf godhamu
- ۹۱. ۹۱. Du'aa'ii yeroo baatii arganii
- ۹۸. ۹۸. Du'aa'ii yeroo fixrii godhamu

- ۹۰. ۹۸. Du'aa'ii nyaata duraa
- ۹۱. ۹۹. Du'aa'ii yeroo nyaata xumuranii
- ۹۹. ۹۹. Du'aa'ii keessummaan abbaa nyaataatiif godhu
- ۹۱. ۹۱. Du'aa'ii nama isa obaaseef godhamu
- ۹۸. ۹۵. Du'aa'ii maatii biratti faxiraniif godhamu
- ۹۸. ۱۰. Du'aa'ii namni ogga nyaanni itti dhufee furuu dhiise godhu
- ۹۹. .۸۱ Waan namni soomu yeroo arrabsame jedhu

- ۹۹. .۸۲Du'aa'ii yeroo
fuduraa haaraa arganii
- ۹۷. .۸۳Du'aa'ii axxiffoo
- ۹۸. .۸۴Waan yeroo
kaafirri axxiffatee Rabbiin
faarse jedhamuun
- ۱۰. .۸۵Du'aa'ii nama
fuudheef godhamu
- ۱۱. .۸۶Du'aa'ii nama
fuudheefi beellada bitee
- ۱۲. .۸۷Du'aa'ii haadha
manaatiin wal qunnamuun
dura godhamu
- ۱۳. .۸۸Du'aa'ii yeroo
dallansuu

- ۱۸. .۸۹ Du’aa’ii namni
nama mokkoramaa arge
godhu
- ۱۹. .۹۰ Waan taa’icha
keessatti jedhamu
- ۱۹. .۹۱ Waan badii
taa’ichaa harcaasu
- ۱۹. .۹۲ Du’aa’ii nama
‘Rabbiin siif haa araaramu’
jedheef godhamu
- ۲۰. .۹۳ Du’aa’ii nama
toltuu sii ooleef gootu
- ۲۱. .۹۴ Waan Rabbiin
ittiin Dajjaal irraa nama
tiksu

- ﴿٥٠﴾ . ۹۰ Waan nama
‘Rabbiif jechan si jaaladha’
jedheen jedhamu
- ﴿٥١﴾ . ۹۱ Du’aa’ii nama
qabeenya isaa sii kenneef
gootu
- ﴿٥٢﴾ . ۹۲ Du’aa’ii yeroo
hidaan kaffalamu nama
kaffaluuf godhamu
- ﴿٥٣﴾ . ۹۳ Du’aa’ii nama
shirkii irraa sodaatee
- ﴿٥٤﴾ . ۹۴ Du’aa’ii nama
‘Rabbiin barakaa si keessa
haa godhu’ jedheen
godhamu
- ﴿٥٥﴾ . ۹۵ Du’aa’ii namni
hixaa fokkataa sodaate
godhu

- ۱۹. ۱۰۰ Du’aa’ii nama
geejjiba yaabbatee
- ۲۰. ۱۰۱ Du’aa’ii imalaal
- ۲۱. ۱۰۲ Du’aa’ii yeroo
magaalaa yookiin biyya
seenanii
- ۲۲. ۱۰۳ Du’aa’ii yeroo
gabaa (magaalaa) seenanii
- ۲۰۰. ۱۰۴. Du’
aa’ii nama geejjibni duraa
dadhabee.
- ۲۰۱. ۱۰۵. Du’
a’ii musaafirri nama
biyyaatiif godhu
- ۲۰۲. ۱۰۶. Du’
a’ii namni biyyaa
musaafiraaf godhu

- ٢٠٩. ٢٠٩. Ade
emsaa imalaa keessatti
takbiiraafi tasbiiha gochuu
- ٢٠٨. ٢٠٨. Du'a
a'ii musaafirri yeroo
assuhrii godhu
- ٢٠٧. ٢٠٧. Du'a
a'ii yeroo imala yookiin kan
biroo keessatti qubatte
gootu
- ٢٠٦. ٢٠٦. Zikri
i yeroo imalaa deebi'anuu
- ٢٠٥. ٢٠٥. Waa
n namni dhimmi isa
gammachiisu yookiin
jibbisiisu mudate jedhu

- ۱۰۷. .۱۱۳ Sada
rkaa Nabiyyii (saw) irratti
salawaata buusuun qabu
- ۱۰۸. .۱۱۴ Sala
amtaa babal'isuu
- ۱۰۹. .۱۱۵ Yero
o kaafirri salaamtaa jedhe
akkaataa ittiin deebisan
- ۱۱۰. .۱۱۶ Du'a
a'ii yeroo lukkuun iyyeefi
harreen halaake godhamu
- ۱۱۱. .۱۱۷ Du'a
a'ii halkan yeroo sareen
dutte godhamu
- ۱۱۲. .۱۱۸ Du'a
a'ii nama arrabsiteef gootu

- ۱۱۸. .Waa n Muslimni yeroo Muslima faarse jedhu
- ۱۱۹. .Waa n Muslimni ogga qulqulleeffame jedhu
- ۱۲۰. .Muh rimni hajjiifi umraa keessatti akkamiin talbiyaa jedha
- ۱۲۱. .Takb iiraa yeroo rukn al-aswaditti dhufanii
- ۱۲۲. .Du'a a'ii jidduu Rukn Alyamaaniifi Hajar Al-aswaditti godhamu

- ١٢٤. Du'a a'ii Safaafi Marwaa irratti godhamu
- ١٢٥. Du'a a'ii guyyaa Arafaa
- ١٢٦. Zikri i Mash'ar Alharaam biratti godhamu
- ١٢٧. Yero o jamraa darbatan takbiiraan shafee hunda waliin jedhama
- ١٢٨. Du'a a'ii nama waa ajaa'ibsiifateefi wahitti gammadee
- ١٢٩. Waa n namni dhimmi isa

gammachiisu itti dhufe hojjatu

- ۱۹۸. .۱۳۰ Waa
n namni dhukkubni qaama
isaatti dhaga'ame jedhu
- ۱۹۹. .۱۳۱ Du'a
a'ii namni ija isaatiin waa
tuquu sodaate godhu
- ۲۰۰. .۱۳۲ Waa
n yeroo naasuu jedhamu
- ۲۰۱. .۱۳۳. Waa
n yeroo gorraasuu jedhamu
- ۲۰۲. .۱۳۴ Tofta
a shayxaana fincila
deebisuuf waan jedhamu
- ۲۰۳. .۱۳۵ Araa
rama kadhachuufi
tawbachuu

- ۱۹۸ . Sada rkaa tasbiihiin, Rabbiin faarsuun, tahliilliifi takbiiraan qabu [899]
- ۱۹۹ . Nabi yyiin (saw) akkamitti tasbiiha godhu
- ۲۰۰ . Gos oota toltuufi naamuusa walii gala

Hisnul Muslim

< oromo > - الأورومية

Qopheessaan: said bin Ali binwahfi
alqahxaaniyyi

Kan hiike: Gaalii Abbaaboor Abbaaguumaa

Gulaala – ustaz Jamaal Muhammad
Ahmad

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ،

Q. Dursa

Dhugumatti faaruun hunduu kan
Rabbiiti. Isa faarsina. Isa
gargaarsifannas. Araaramas isarraa
barbaanna. Hamtuu lubbuu
keenyaatiifi yakka hojii keenyaa
irraa Rabbitti maganfanna. Nama
Rabbiin isa qajeelche wanti jallis
hin jiru. Nama inni jallise wanti
qajeelchu hin jiru. “Dhugaan
gabbaramaan isa malee hin jiru; Inni

tokkicha hiriyaan hin qabne” jechuu ragaan baha. Akkasuma Muhammad (saw) gabricha Rabbiifi ergamaa Isaa ta’uu ragaan baha. Rahamanni Rabbiifi nageenyi Isaa isaan, maatii isaanii, sahaabota isaaniifi warra hanga Guyyaa Qiyaamaatti haala gaariin isaan hordofan irra haa jiraatu.

Ittiin aansuudhaan kun kitaaba gabaabaa ani kitaaba kiyya isa dheeraa “Zikrii, du’aa’iifi ruqaa Qur'aanaafi hadiisaa” jedhamu irraa gabaabseedha. Akka imala keessatti baadhachuun isaa salphatuufin kutaa zikrii qofa irraa gabaabse.

Barruu zikrii qofarrattin
gabaabbadhe. Wabii isaa kitaaba
jalqabaa irratti argame keessaa
tokko yookiin lama dubbachuu
irrattin gabaabbadhe. Namni
sahaabaa hadiisicha odeesse yookiin
wabii dabalataa baruu fedhe gara
kitaaba isa jalqabaatti deebi'uu qaba.
Rabbii guddaa maqoolee Isaa
gaggaariifi amaloota Isaa ol aanaa
ta'een akka inni waan Isaaf jecha
hojjatame, jiruu kiyya keessattiifi
ergan du'eellee kan ani itti
fayyadamu, nama dubbiseefi
maxxansellee fayyadu taasisun
kadha. Kan kana godhuu danda'u isa
qofa waan ta'eef. Rahmanni
Rabbiifi nageenyi Isaa Nabiyyii,
maatii isaanii, sahaabota isaaniifi

warra hanga Guyyaa Qiyaamaatti
haala gaariin isaan hordofan irra haa
jiraatu.

Qopheessaa

Ji'a Safarii bara ፭፻፲፯ ALH gulaale.

Sadarkaa Zikriin qabu

Rabbiin ol ta'e ni jedhe: “na
yaadadhaa; anis isinin yaadadha. Na
galateeffadhaa natti hin kafarinaa.”
(Albaqaraa: ٨٩).

“Yaa warra amantan yaadannoo
baay’ee Rabbiin yaadadhaa.” (Al-
Ahzaab: ٨٩)

“Dhiirolee baay’ee Rabbiin
yaadataniifi dubartii Rabbiin

yaadatan, Rabbiin araaramaaifi
mindaa guddaa isaaniif
qopheesseera.” (AL-Ahzaab: ٩٨)

“Lubbuu kee keessatti gadi of
qabaafi sodaataa, sagalee ol hin
fuudhaminiin ganamaafi galgala
Gooftaa kee faarsi. Dagattoota irraas
hin ta’in.” (Al-Anfaal: 908)

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَثْلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ، وَالَّذِي لَا
يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثْلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ))

Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan:
“fakkeenyi nama Rabbii isaa
yaadatuufi isa Rabbii isaa hin
yaadanee fakkeenya jiraataafi
du’ aati.” Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

وَقَالَ عَلِيُّ^{عَلَيْهِ السَّلَامُ}: ((أَلَا أَنْتُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا
عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ
مِنْ إِنْفَاقِ الْذَّهَبِ وَالْوَرْقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوا
عَذَوْكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا
أَعْنَاقِكُمْ))؟ قَالُوا بَلَى. قَالَ:

(ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى))

Ammas Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: “dhaga’aa! Mee caalaa hojii keessanii, Rabbii keessan birattis akkaan qulqulluu, sadarkaa keessanis kan akkaan ol kaaftu, warqiifi meeta sadaqachuurra kan isiniif caaltuufi isin diina keessan qunnamtanii morma isaanii rukutuufi isaan morma keessan rukutuu irra kan isiniif caalu isinitti

himuu?” Eeyyee jedhan. “Inni zikrii Rabbii ol ta’eeti” jedhan. [Q]

وَقَالَ ﷺ: ((يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي
بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ،
ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأِ، ذَكَرْتُهُ
فِي مَلَأِ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ
إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ
بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan:
 “Rabbiin ol ta'e ni jedha: ‘ani bakka gabrichi kiyya itti na yaaden jira.
 Ani yeroo inni na yaadate isa waliinin jira. Yoo inni lubbuu isaa keessatti na yaadate lubbuu kiyya keessattin isa yaadadha. Yoo inni jamaa'aa keessatti na yaadate jamaa'aa isaan caalan keessattin isa

yaadadha. Yoo inni taakkuu natti
dhihaate dhundhuman itti
dhihaadha. Yoo inni dhundhuma
natti dhihaate harka guutuun isatti
dhihaadha. Yoo deemaa natti dhufe
sussukkiinin isatti dhufa.”[9]

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ t أَنَّ رَجُلًا قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ،
فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهُ بِهِ. قَالَ: ((لَا يَزَالُ لِسَانُكَ
رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ)) ([٩١]).

Abdullaah bin Busr irraa
odeeffamee (*ra*) ni jedhe: namni
tokko “yaa Ergamaa Rabbii
sharii’aan Islaamaa narratti
baay’attee waan ani qabadhu natti
himi” jedhe. Ergamaan Rabbii (*saw*)

ni jedhan: “arrabni kee Rabbiin zakkaruu irraa hin qoorin.”[8]

وَقَالَ ﷺ: ((مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْخَيْرُ بِعِشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَفُولُ: (الْمُ حَرْفٌ، وَلَكِنْ: الْأَلِفُ حَرْفٌ، وَالْأَلِامُ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ))

Ammas Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: “kitaaba Rabbii irraa namni qabee tokko dubbise mindaa tokko qaba. Mindaan immoo fakkii ishee kudhaniin kaffalamti. ‘Alif Laam Miim’ qabee tokko hin jedhu; garuu Alif qbeedha Laamis qabee Miimis qbeedha.”[8]

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ t قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالَ: ((أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ

يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ، فَيَأْتِي مِنْهُ
 بِنَاقَّتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطِيعَةَ رَحِمٍ)؟
 فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ: ((أَفَلَا يَغْدُو
 أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ
 اللَّهِ ﷺ حَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَّتَيْنِ، وَثَلَاثٌ حَيْرٌ لَهُ مِنْ
 ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ
 مِنَ الْإِبْلِ))([٦]).

Uqbaa bin Aamir irraa odee effamee (ra) ni jedhe: Ergamaan Rabbii (saw) osoo nuti warra suffaa keessa jirruu nurratti bahanii “isin keessaa eenyutu guyyaa hundaa gara Buxhaan yookiin Aqiiq dhaqee haala yakkaafi firooma kutuu hin qabneen gaala gooba dhedheertuu lama fudhatee dhufuu jaalata?” jedhan. “Yaa Ergamaa Rabbii sana ni jaalanna” jenne. Ergamaan Rabbii

(saw) “tokkoon keessan gara masjidaa deemee kitaaba Rabbii irraa aayata lama barachuun yookiin qara'uun gaala lama irra isaaf caala; sadii gaala sadii irra caala. Afuris gaala afur irra caala. Gaala lakkoofsa hanga isaanii ni caalu.”^[9]

وَقَالَ ﷺ: ((مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجِعًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ))

Ammas Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: “namni taa’icha tokko taa’ee isa keessatti Rabbiin hin zakkarin hoongoon Rabbiin biraat ta’e isa mudata. Namni ciisicha wahii ciisee isa keessatti Rabbiin hin zakkarin

gaabbii Rabbiin biraat etu isarra
jiraata.”[2]

وقال ﷺ: ((ما جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ)).([٤])

Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan:
“ummanni taa’icha isa keessatti
Rabbitiin hin zakkarreefi Nabiyyii
irratti rahmata hin buusin taa’an
hoongoon Rabbi biraat ta’e isaan irra
jiraatu malee hin hafu. Rabbitiin yoo
fedhe isaan adaba yoo fedhe isaaniif
araarama.”[20]

وَقَالَ ﷺ: ((مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُولُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا
يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ حِيفَةِ حِمَارٍ،
وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً)).([٤٤])

Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan:
“ummanni taa’icha isa keessatti
Rabbiin hin zakkarre irraa ka’an
akka waan raqa harree irraa
ka’aaranuu ta’an malee hin hafan.
Gaabbiin (sheenaan) isaan irra
jiraata.”[٢٩]

١ - أَذْكَارُ الْاسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ

9. ٩. Zikrii yeroo hirriba irraa dammaqanuu

١-(١) ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا،
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)).([٢٩])

٩- “Faaruun kan Rabbii erga nu
ajjeesee fayyissee nu
jiraachiseeti.”[٢٨]

٢-(٢) ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ
أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ،
رَبِّ اغْفِرْ لِي)). ([٤٨]).

9- “Dhugaan gabbaramaan Allaah malee hin jiru. Inni tokkicha shariika hin qabneedha.

¶- Mootummaan kan isaati. Faaruunis kan Isaati. Inni waan hundaa danda'aadha. Rabbiin qulqulla'e. Faaruun kan Rabbiiti. Dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru. Rabbiin hundarra guddaadha. Tooftaafi humnis Rabbii ol ta'aa guddaa irraa malee hin

argamu. Yaa Rabbi naaf
araarami.”[٢٦]

٣- ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ
عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذْنَ لِي بِذِكْرِهِ)).([٢٧]).

٤- “Faaruun kan Rabbii isa qaama
kiyya nagaa godhee lubbuu kiyya
natti deebisee isa yaadachuu naaf
eyyameeti.”[٢٨]

٥- “Uumuu samiifī dachii, wal
bakka bu’uu halkaniifi guyyaa
keessa warra sammuu qabaniif
mallattooleetu jira. [Isaan] warra
dhaabatanii, taa’anii, cinaacha
isaanii irrattis Rabbiin faarsanii “yaa
Gooftaa keenya! Ati kana taphaaf
hin uumne, qulqulloofte, adabbii

ibiddaa irraa nu baraari" jedhaa
uumama samiifi dachii keessatti
xiinxalaniidha. "Gooftaa keenya!
Ati nama ibidda seensifte
dhugumatti isa salphifteetta.
Miidhaa hojjattootaaf gargaaraan
hin jiru. Gooftaa keenya!
dhugumatti nuti lallabaa 'Gooftaa
keessanitti amanaa' jechuun
iimaanaaf lallabu dhageenyee
amanneerra. Gooftaa keenya! badii
keenia nuuf araarami; hamtuuwwan
keenyas nurraa harcaasi; warra
qulqulluu wajjinis nu ajjeesi.
Gooftaa keenya! Waan ergamtoota
kee irratti waadaa nuuf seente nuuf
kenni. Guyyaa Qiyaamaas nu hin
salphisin. Dhugumatti Ati waadaa

hin faallessitu" [jedhaa xiinxalaniidha]. Gooftaan isaaniis "Ani dalagaa nama isin irraa dalagee kan dhiiraas ta'ee dhalaan hin balleessu. Gariin keessan garii irraayyi" jechuun isaaniif owwaate. Isaan godaanan, manneen isaanii irraa baafaman, kan karaa kiyya keessatti rakkifamanii lolaniifi ajjeefaman, dhugumatti hamtuuwwan isaanii isaan irraa harcaaseen ashaakiltii laggeen jala ishee yaatu isaan seensisa. Mindaa Rabbiin biraa ta'e [mindeffaman]. Rabbiin isa bira mindaa gaariitu jira. Dachii keessa garagaggaluun warra kafaranii si hin gowwoomsin. [Kun] qananii muraasa. Ergasii teessoon

isaanii jahannami. Afatichi waa fokkate! Garuu isaan Gooftaa isaanii sodaatan ishee keessatti hafuu ta'anii isaaniif ashaakiltiilee laggeen ishee jala yaatutu jira. Affeerraa Rabbiin biraan ta'e [affeeraman]. Waan Rabbiin biraatu qulqullootaaf caalaadha. Warra kitaabaa irraa kan Rabbiif of gadi qaban, keeyyattoota Rabbii maallaqa xiqqaan hin jijjiirranne ta'anii warra Rabbitti, waan gara keessanitti buufameeffi waan gara isaaniitti buufametti amanantu jiru. Warri sun isaaniif mindaan isaanii Gooftaa isaanii bira jira. Dhugumatti, Rabbiin qormaanni isaa ariifataadha. Yaa warra amantan! Obsaa; obsaan [diinota

keessan] injifadhaa; karaa Rabbii
keessattis of hidhaa. Akka
milkooftaniif jecha Rabbiin
sodaadhaa.”[٤٥]

٤- دُعَاءُ لِبْسِ التَّوْبِ

٩. Du’aa’ii huccuu uffachuu

٥- ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا (التَّوْبَ))
وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِي وَلَا
قُوَّةً...).([٩٠])

٦- “Faaruun kan Rabbii huccuu kana
na uffisee tooftaafi humna ana biraa
ta’een maleetti naaf kenneeti.”[٩١]

٣- دُعَاءُ لِبْسِ التَّوْبِ الْجَدِيدِ

٨. ٩. Du'aa'ii huuccuu haaraa uffachuu

٦ - ((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسُوتَنِي، أَسأْلُكَ مِنْ
خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَغُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ
وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ)).([99]).

Γ- Yaa Rabbi faaruun keeti. Situ isa na uffise. Toltuu isaatiifi toltaa inni tolfameef irraan si kadha. Hamtaa isaatiifi hamtaa inni tolfameef irraa sittin maganfadha.[99]

٤ - الدُّعَاءُ لِمَنْ لَيْسَ ثُوبًا جَدِيدًا

٨. ٨. Du'aa'ii nama huuccuu haaraa uffateef godhamu

٧- ((تُبَلِّي وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى)).([98]).

٤- “Kun sirraa dhumee Rabbiin
bakka haa buusu.”[\[٩٨\]](#)

٥- ((الْبَسْنُ جَدِيدًا وَعِشْنُ حَمِيدًا وَمُتْ
شَهِيدًا)).[\[٩٩\]](#)

٦٠- Haaraa uffadhu. Rabbiin faarsaa
jiraadhu. Wareegamii du'i.[\[٩٩\]](#)

٥ - مَا يَقُولُ إِذَا وَضَعَ تَوْبَةً

٧. ٨. Waan yeroo huuccuu
baasan jedhamu

٩. ١٠ - ((بِسْمِ اللَّهِ))[\[٢٨\]](#)

٦١- Maqaa Rabbiitiin[\[٩٩\]](#)

٦ - دُعَاءُ دُخُولِ الْخَلَاءِ

٩. ٩. Du'aa'ii yeroo mana fincaanii seenanii

١٠ - ((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)). ([٩٠]).

٢٩- Maqaa Rabbiitiin; yaa Rabbi ani jaarsa jinniifi jaartii jinnii irraa sittin maganfadha. [٩١]

٧ - دُعَاءُ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ

٤. ٤. Du'aa'ii yeroo mana fincaaniitii bahanuu

٤. ٤. - ((غُفْرَانَكَ)) ([٣٢]).

٥١- Araarama keen [barbaada]. [٩١]

٨ - الذِّكْرُ قَبْلَ الْوُضُوءِ

٤٠. Zikrii wuduu dura godhamu

٤١ - ((بِسْمِ اللَّهِ)) [٣٤].

٤٨- Maqaa Rabbiitiin.[٩٨]

٩ - الْذِكْرُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ

٤٩. Zikrii wuduu booda godhamu

١٣- (١) ((أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ..)).[٩٩]

٤٨- “Dhugaan gabbaramaan Rabbii tokkicha hiriyaan hin qabne malee akka hin jirre ragaan baha. Muhammadis gabrichaafi ergamaa Isaa ta’uu ragaan baha.”[٩٩]

٤- (٢) ((اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ
وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ)). [٣٨] .

٥٩- “Yaa Rabbi warra tawbachuu
baay’isuufi qulqulleeffanna
baay’isuu irraa nu taasisi.” [٩٨]

١٥- (٣) ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)). [٨٠]

٦١- “Yaa Rabbi faaruu keetii
waliinin si qulqulleessa. Si malee
dhugaan gabbaramaan hin jiru.
Araaraman sirra barbaada.
Tawbadhees gara keettin
deebi’ a.” [٨١]

١٠ - الذِّكْرُ عِنْدَ الْخُروجِ مِنَ الْمَنْزِلِ

QQ. ៤១. Zikrii yeroo manaa bahan jedhamu

١٦- (١) ((بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)). [٨٩].

៤៨- “Maqaa Rabbiitiin. Rabbirratti
hirkadhe. Tooftaafi humni Rabbiin
biraa malee hin argamu.” [៨៩]

١٧- (٢) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ
أَضِلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أَزَلَّ، أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ
أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ)). [៨៨].

៩០- “Yaa Rabbi ani jallachu
yookiin jallifamuu, mucucaachuu
yookiin mucuceeffamuu, miidhuu
yookiin miidhamuu, wallaalumaan

nama miidhuu yookiin miidhamuu irraa sittin maganfadha.”[٤٨]

١١ - الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَنْزِلِ

٩٩. ٤٨. Zikrii yeroo mana seenan jedhamu

١٨ - ((بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى
اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسْلِمْ عَلَى أَهْلِهِ))(٤٩).

٩٠- “Maqaa Rabbiitiin seennee maqaa Rabbiitiin baane. Rabbii keenya irrattis hirkanneerra.” Ergasii salaamtaa jedha.[٤٩]

١٢ - دُعَاءُ الدَّهَابِ إِلَى الْمَسْجِدِ

٩١. ٤٨. Du’aa’ii yeroo masjida deemanuu

١٩ - ((اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي
 نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا،
 وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي
 نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَمِنْ
 خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي
 نُورًا، وَعَظِيمْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا،
 وَاجْعَلْنِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي
 عَصَبِي نُورًا، وَفِي لَحْمِي نُورًا، وَفِي دَمِي نُورًا،
 وَفِي شَعْرِي نُورًا، وَفِي بَشَرِي نُورًا)). (٤٧).

99- Yaa Rabbi qalbii kiyya keessa ifaa godhi. Arraba koo keessas ifaa, dhageetii koo keessas ifaa, agartuu koo keessas ifaa, gubbaa kiyyas ifaa, jala kootis ifaa, mirga koo irraanis ifaa, bitaa kiyya irraanis ifaa, fuuldura kootis ifaa, duuba kiyyaanis ifaa, lubbuu koo keessas ifaa taasisi. Ifaa guddaa naaf godhi.

Ifaa naaf guddisi. Ifaa naaf godhi. Ifaa na godhi. Yaa Rabbi ifaa naaf kenni. Hidda kiyya keessas ifaa taasisi. Foon kiyya keessas ifaa taasisi. Dhiiga kiyya keessas ifaa taasisi. Rifeensa kiyya keessas ifaa taasisi. Qaama kiyya keessas ifaa taasisi.”[\[٨٧\]](#) “yaa Rabbi qabrii kiyya keessatti ifaa naaf taasisi. ... lafee kiyya keessas ifaa taasisi.”[\[٨٠\]](#) [ifaa naaf dabali; ifaa naaf dabali; ifaa naaf dabali.][\[٨١\]](#) “Ifaa irratti ifaa naaf kenni.”[\[٨٩\]](#)

١٣ – دُعَاءُ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

٤٨. ٤٩. **Du'aa'ii yeroo masjida seenanuu**

٢٠ - ((يَبْدأُ بِرَجْلِهِ اليمَنِيِّ)) [٨٩]، وَيَقُولُ: ((أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوْجْهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)) [٨٤] ([بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ]) [٨٨] ([اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ اللهِ]) [٨٦] ([الرَّحْمَةُ]) [٨٧].

٩٩- Shayxaana abaaramaa irraa Rabbii guddaatti, fuula Isaa kabajamaafi taayitaa Isaa turaa ta'ettin maganfadha.” [٨٨] “Maqaa Rabbiitiin; [٨٩] rahmataafi nageenyi Ergamaa Rabbii irra haa jiraatu. [٩٠] Yaa Rabbi hulaa rahmata keetii naaf bani.” [٩١]

٤ - دُعَاءُ الخُروجِ مِنَ الْمَسْجِدِ

٤٨. ٤٩. Du'aa'iib yeroo masjidaa bahanuu

٢١- ((يَبْدأُ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى)) ([٦٩]) وَيَقُولُ: ((بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ اغْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)). ([٧١]).

٩٨- “Maqaa Rabbiitiin; rahmataafi nageenyi ergamaa Rabbii irra haa jiraatu. Yaa Rabbi ani tola kee irraan si kadha. Yaa Rabbi shayxaana abaaramaa irraa na tixi.” [٩٨]

١٥ - أَذْكَارُ الْأَذَانِ

٤٩. ٤١. Zikrii yeroo azaanaa godhamu

٢٢٥٨ - (١) يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا فِي ((حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ)) فَيَقُولُ: ((لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)). [٦٨]

٩٨- Fakkii waan mu'azzinni jedhuu jedha. Garuu “hayya alassalaafi hayya alal falaah” irratti qofa “tooftaafi humni Rabbiin biraamalee hin argamu” jedha. [٦٩]

٢٣ - (٢) يَقُولُ: ((وَأَنَا أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبِّاً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا)) (يَقُولُ ذَلِكَ عَقْبَ تَشَهِّدِ الْمُؤَذِّنِ)). [٦٧]

٩٩- Ni jedha: “anis akka dhugaan gabbaramaan Rabbii tokkicha hiriyyaa hin qabne malee hin jirreefi

muhammadis gabricha Rabbiifi
ergamaa Isaa ta'uu ragaan baha.
Allaahn gabbaramaa keenya ta'uu,
Muhammad ergamaa ta'uufi
Islaamni amantii kiyya ta'uu
jaaladheera.”[٩٨] Kan inni kana
jedhu yeroo mu'azzinni shahaadaa
lamaan jedhee xumure.[٩٠]

٢٤- (٣) ((يُصَلِّيَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ إِجَابَةِ الْمُؤْدِنِ)) ([٩٢]).

٩٩- Booda haala kanaan azaana
jawaabee xumuree Nabiyyii (saw)
irratti salawaata buusa.[٩٩]

٢٥- (٤) يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ،
وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، أَتَ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ،

وَابْعَثْنَاهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْنَاهُ، [إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيعَادَ]([٦٩]).

٩٧- **Sana booda ni jedha:** “yaa
Rabbii waamicha guutuu kanaafi
salaata dhaabamaartuu!
Muhammadiif wasiilaafi kabajaa
kenne. Sadarkaa kabajamaa isaaf
waadaa seente irrattis isa kaasi. [Ati
waadaa hin faallessitu waan
ta’eeef]”[٦٨]

٢٦٩٥- (٥) ((يَدْعُونَ لِنَفْسِهِ بَيْنَ الْأَذَانِ
وَالْإِقَامَةِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ حِينَئِذٍ لَا يُرَدُّ) ([٦٨]).

٩٨- Azaanaafi iqaamaa jidduu
du’aa’ii godha. Du’aa’iin yeroo
kanaa hin didamu waan ta’eeef.[٦٩]

١٦ - دُعَاءُ الْاسْتِفْتَاحِ

٩٩. ٩٠. Du'aa'i salaaanni ittiin banamu

٢٧- (١) ((اللَّهُمَّ بَا عِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايِ كَمَا
بَا عَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ
خَطَايَايِ كَمَا يُنَقِّي التَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ،
اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايِ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ
وَالْبَرِّ)). ([٩٩]).

٩٠- "Yaa Rabbi! Akka jidduu
bahaafi lixaa wal irraa fageessite
jidduu kootiifi jidduu dilii kootii wal
irraa fageessi (cubbuu irraa na
fageessi). Yaa Rabbi! Akka uffanni
adiin xurii irraa qulqullaahutti anas
dilii koo irraa na qulqulleessi. Yaa
Rabbi! dilii koo irraa cabbii,

bishaaniifi cabbiidhaan na
dhiqi.”[٩٧]

٢٨- ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ
اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَذْنُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ))([٩٨]).

٩٩- “Yaa Rabbi faaruu keetii
wajjinin si qulqulleessa; maqaan kee
bu'aan isaa baay'ate, ulfinni keetis
olta'e, si malee dhugaan
gabbaramaan biraahin jiru.”[٩٩]

٢٩- ((وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ
صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَي، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمْرَتُ وَأَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ
رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي
فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا

أَنْتَ. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْخُلُقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا
إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفْ عَنِّي
سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ
بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ،

أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ). ([٢٩]).

٧٧- “Ani haalan gara tawhiidaa
dabee jiruun fuula kiyya gara Isa
samiifi dachii uumeetti deebiseera.
Salaanni kiyya, ibaadaan kiyya,
jiruun kiyyaafi duuti kiyya Rabbii
gooftaa aalamaatiifi. Shariikni isaaf
hin jiru. Kanattin ajajames. Ani
Muslima irraayi. Yaa Rabbi mootiin
suma qofa; dhugaan gabbaramaan si
malee hin jiru. Ati Gooftaa kiyya ani
gabricha keeti. Lubbuu kiyya

miidheera. Yakka kiyyas amaneera. Dilii koo hundaa naaf araarami. Kan dilii araaramu si malee waan hin jirreef. Yaa Rabbi gara amala gaariitti na qajeelchi. Gara akkaan gaarii isheetti si malee kan qajeelchu hin jiru. Hamtuu ishee immoo narraa deebisi; hamtuu ishee si malee kan narraa deebisu waan hin jirreef. Owwaadhe. Milkuunis kan keeti. Toltuun hunduu sirka jira. Hamtuun gara keetii miti. Ani siinin jira gara keettin deebi'a. Guddattee ol taate. Araaraman sirra barbaada; gara keettin deebi'a.”[٩]

٣٠ - (٤) ((اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ، وَمِنْكَائِيلَ،
وَإِسْرَافِيلَ، فاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالَمَ
الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا

كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ
الْحَقِّ إِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ شَاءَ إِلَى صِرَاطٍ
. ([٩١]) (مُسْتَقِيمٌ)

٩٨- “Yaa Allaah gooftaa Jibriil,
Mikaa’eeliifi Israafiil! Uumaa
samiifi dachii! Beekaa fagoofi
dhihoo kan taate! Ati waan
gabroonni kee irratti wal dhabaa
turan keessatti murtii kennita. Haqa
waan keessatti wal dhabameef na
qajeelchi. Ati abbaa feete karaa
sirriitti qajeelchita waan
taateef.” [٤]

٣١-(٥) ((الله أَكْبَرُ كَبِيرًا، الله أَكْبَرُ كَبِيرًا، الله
أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا،
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا))

ثَلَاثًا ((أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ: مِنْ نَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ،
وَهَمْزَهِ)). ([٨])

٧٨- “Rabbiin guddate guddina ol aanaa (x٧). Faaruun kan Rabbiiti; faaruun baay’een (x٩). Ganamaafi galgala qulqullina isaan malun Isa qulqulleessa.” Kana hundaa si’ a sadii jedha. Achiin “shayxaana irraa Rabbittin maganfadha: boona isaa irraa, walaloo isaafi isa inni nama kuffisu irraa.” [٩]

٣٢- (٦) ((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ))، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، [وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ] [وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ]

[وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ] [وَلَكَ
 الْحَمْدُ] [أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ،
 وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ
 حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ] [اللَّهُمَّ لَكَ
 أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَبَتُ،
 وَبِكَ خاصَّمْتُ، وَإِلَيْكَ حاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي مَا
 قَدَّمْتُ، وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَمْتُ]
 [وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي] [أَنْتَ الْمُقْدِمُ، وَأَنْتَ
 الْمُؤْخِرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ] [أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ]
 [وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ] (][][]).

٧٦- “Yaa Rabbi faaruun kan keeti ati ifaa samii, dachiifi warra isaan keessa jiraniiti. Ammas faaruun kan keeti ati jiraachisaa samii, dachiifi warra isaan keessa jiraniiti. Ammas faaruun kan keeti ati Gooftaa samii, dachiifi warra isaan keessa jiraniiti. Ammas faaruun kan keeti

mootummaan samii, dachiifi warra
isaan keessa jiranii keeti. Ati mootii
samiifi dachiiti faaruun keeti.
Ammas faaruun keeti. Ati
dhugaadha. Baallamni keetis
dhugaadha. Jechi keetis dhugaadha.
Qunnamtiin keetis dhugaadha.
Jannannis dhugaadha. Ibiddis
dhugaadha. Nabiyyoonnis
dhugaadha. Muhammadis (saw)
dhugaadha. Qiyaamaanis
dhugaadha. Yaa Rabbi siif
ajajameera. Surratti hirkadheeras.
Sittis amane. Gara keettis deebi'e.
Maqaa keetiin falme. Murtiis gara
keetti barbaade. Waan ani dabarse,
waan ani booda aanses, waan ani
iccitii godheefi mullises naaf

araarami. Ati dura buufta booda
aansitas waan ta'eeef. Dhugaan
gabbaramaan si malee hin jiru. Ati
gooftaa kootii dhugaan
gabbaramaan si malee hin jiru.”[٢٩]

١٧ - دُعَاءُ الرُّكُوعِ

٩٦. Du'aa'ii rukuu'aa

٣٣- (١) ((سُبْحَانَ رَبِّيِ الْعَظِيمِ)). ثلث مراتٍ([٤٠]).

٩٧- “Rabbiin kiyya guddaan
qulqullaa'e.” (x٩)[٤١]

٣٤- (٢) ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ الْجِدَارِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي))([٤٩]).

٩٦- “Yaa Rabbi faaruu keetii
waliinin si qulqulleessa. Yaa Rabbi
naaf araarami.”[٤٧]

٣٥- ((سُبُّوْحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ
وَالرُّوحُ)) ([٤٨]).

٩٧- “[Rabbiin] shariika irraa
qulqulleeffamaa, hanqina irraa
qulqulleeffamaa, Rabbii Jibriiliifi
maleykotaati.”[٤٨]

٣٦- ((اللَّهُمَّ لَكَ رَغْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ
أَسْلَمْتُ، خَشِعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَارِي،
وَمُخْيِ، وَعَظِيمِي، وَعَصَبِي، [وَمَا اسْتَقْلَّتْ بِهِ
قَدَمِي]) ([٤٩]).

٨٠- “Yaa Rabbi siif rukuu’ a godhe;
sittis amane. Siif ajajameeras.

Dhageettiin, agartuun, dhukti,
lafeen, hiddiifi wanti miilli kiyya
ittiin dhaabbaate siif
xinnaateera.”**[٤٦]**

٤٧- (٥) ((سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ،
وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ)).**[٩٨]**

٤٩- “Rabbiin abbaan humnaa,
mootummaa, guddinaafi ol ta’iinsaa
qulqulla’e.”**[٤٧]**

١٨ - دُعَاءُ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ

٤٩. Du’aa’ii yeroo rukuu’a irraa ka’anuu

٤٨- (١) ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ)).**[٢٠٠]**

- ٤٣“Rabbiin Nama Isa faarseef dhaga'e.”[\[٢٠٨\]](#)

٣٩- (٢) ((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ)).[\[٢٠٩\]](#)

- ٤٤“Rabbii keenya faaruun keeti. Faaruu baay'ee, gaarii, barakaan ishee keessa jirun [si faarsa].”[\[٢٠١\]](#)

٤٠- (٣) ((مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ النَّاسِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُغْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدَّ مِنْكَ الْجَدُّ)).[\[٢٠٨\]](#)

٤٨- “Guutuu samii, guutuu dachiifi waan jidduu isaan lamaanii jiranuun [si faarsa]. Guutuu waan ati feete

waan kanaan ala jiruu. [Ati] abbaa faaruufi guddinaati. Akkaan dhugaan wanti gabrichi kee dubbatee, nuti hunduu siif gabrichaa, ‘yaa Rabbi waan ati kennite wanti dhorgatu hin jiru; waan ati dhorgattes kennaan hin jiru. Abbaa qabeenyaa adabbii kee irraa qabeenyi isaa homaa hin fayyadu.”[٢٠٨]

١٩ - دُعَاءُ السُّجُودِ

٩٠. ٢٣ Du’aa’ii sujuudii

١٩٤-١) ((سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى)) ثلث مَرَاتٍ([٢٠٩]).

- ٤٦“Rabbiin kiyya ol ta’aan qulqullaa’e.” Si’a sadii [٢٠٩]

٤٢ - (٢) ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)) ([٢٠١]).

- ٤٧“Yaa Rabbi faaruu keetii waliinin si qulqulleessa. Yaa Rabbi naaf araarami.” [٢٠٨]

٤٣ - (٣) ((سُبُّوْخٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوح)) ([٢٢٠]).

٤٤ - “[Rabbiin] shariika irraa qulqulleeffamaa, hanqina irraa qulqulleeffamaa, Rabbii Jibriiliifi maleykotaati.” [٢٢١]

٤٥ - (٤) ((اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ،

وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ)([١١٢]).

-٥٠-“Yaa Rabbi siif sujuude. Sitti amanes. Siif ajajame. Fuulli kiyya kan isa uumee, isa bocee, dhageettiifi agartuu isaaf godheef sujuudeera. Rabbiin akkaan gaaromsee uumaa ta’e toltuun isaa baay’ateera.”[\[٢٢٩\]](#)

٤٥- (٥) ((سُبْحَانَ ذِي الْجَبُورَةِ، وَالْمَلْكُوتِ،
وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ)) ([٢٢٨]).

-٥١-“Rabbiin abbaan humnaa, mootummaa, guddinaafi ol ta’iinsaa qulqulla’e.”[\[٢٢٨\]](#)

٤٦- (٦) ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ: دِقَّهُ وَجِلَّهُ،
وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَّتَهُ وَسِرَّهُ)) ([٢٢٩]).

-٥٢“Yaa Rabbi yakka kiyya hunda,
xiqqoofi guddaa isaa, jalqabaafi
dhuma isaa, mullataafi dhokataa isaa
naaf araarami.”**[٤٤٩]**

٤٧ - (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخْطِكَ،
وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا
أُحْصِي شَاءَ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْبَيْتَ عَلَى
نَفْسِكَ).([٤٤٨]).

-٥٣“Yaa Rabbi dallansuu kee irraa
jaalala keetti, adabbii kee irraa
nageenya keettin maganfadha. Sirraa
sumattin maganfadha. Faaruu sIRRATTI
godhamu lakkaa’ee hin xumuru. Ati
akkuma lubbuu kee
faarsiteedha.”**[٤٤٧]**

٢٠ - دُعَاءُ الْجُلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

٩٦. ٢٥ Du'aa'ii jidduu sujuuda lamaanii

٤٨ - (١) ((رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ
لِي)). ([٢٩٠])

- ٥٤ - “Yaa Rabbi naaf araarami! Yaa
Rabbi naaf araarami.” [٢٩١]

٤٩ - (٢) ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي،
وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي،

٨٨ - “Yaa Rabbi naaf araarami. Na
mararfadhu. Na qajeelchi. Na suphi.
Nagaa na godhi. Na soori. Ol na
kaasi.” [٢٩٩]

٢١ - دُعَاءُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

99. ٩٩. Du'aa'i sujuudii yeroo Qur'aanni qara'amuu

٥٠٩٩- (١) ((سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ،
وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)). [٢٩٧])

١٩٥- (٢) ((اللَّهُمَّ اكْثِبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذَخْرًا، وَتَقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقْبَلَتْهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاؤِدًا)). [٢٩٨]

٤٦- “Fuulli kiyya kan toofstaafi humna Isaatiin isa uume, isa boce, dhageettiifi agartuu isaaf godheef sujuudeera. Rabbiin akkaan gaaromsee uumaa ta'e toltuun isaa baay'ateera.” [٢٩٨]

٥١- (٢) ((اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ دُخْرًا، وَتَقْبِلْهَا مِنِّي كَمَا تَقْبَلَتْهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاؤِدَ)). ([٢٩٩]).

٨٩- “Yaa Rabbi Si biratti mindaa ittiin naaf barreessi. Isheedhaan badii narraa harcaasi. Isheedhaan si biratti kuusaa naaf godhi. Akka gabricha kee Daawud irraa qeebalte narraa qeebali.” [٢٩٩]

٢٢ - التَّشَهِيدُ

٩٩. ٩٥. Tashahhuda

٥٢- ((الْتَّحِيَاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّبَيَّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)). ([٢٩٧]).

٨٧- “Kabajaan, salaatonni (ibaadaan adda addaa) fi dubbiin gaggaariin hunduu kan Rabbiiti. Yaa Nabiyyichaa! Nageenyi sirra haa jiraatu; Rahmanni Rabbiitiifi barakaan isaas. Nageenyi nuufi gabroottan Rabbii gaggaarii irra haa jiraatu. 'Dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiruu' ragaan ba'a. Muhammadis gabricha Rabbiifi ergamaa isaa ta'uu ragaan ba'a.” [٢٩٤]

٢٣ - الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَ بَعْدَ التَّشَهِيدِ

٩٨. ٣. Tashahhuda booda
Nabiyyii (saw) irratti salawaata
buusuu

٥٣ - (١) ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)). [٤٧٠].

- ٥٩ "Yaa Rabbi akkuma
Ibraahiiimiifi maatii Ibraahiiim irratti
Rahmata buufte Muhammadiifi
Maatii Muhammad irratti Rahmata
buusi; Ati faarfamaa guddaa waan
taateef. Ammas akkuma
Ibraahiiimiifi maatii Ibraahiiim irratti
barakaa buufte Muhammadiifi
Maatii Muhammad irratti barakaa
buusi; Ati faarfamaa guddaa waan
taateef." [٤٧١]

٥٤ - (۲) ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ
وَدُرْرِيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَدُرْرِيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)) ([۶۹۹]).

- ٦٠ "Yaa Rabbi akkuma maatii Ibraahiim irratti Rahmata buufte Muhammad, niitolii isaaniitiifi ilmaan isaanii irratti Rahmata buusi. Ammas akkuma maatii Ibraahim irratti barakaa buufte Muhammad, niitolee isaaniifi ilmaan isaanii irratti barakaa buusi. Ati faarfamaa guddaa waan taateef." [٦٩٩]

٤ - الدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشْهِيدِ الْأَخِيرِ قَبْلَ السَّلَامِ

٩٨. ٣١ Du'aa'i tashahhuda boodaa keessatti salaamtaa dura godhamu

٥٥ - (١) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ،
وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ،
وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ)). [٢٩١٨]

- ٦١ “Yaa Rabbi ani adabbii qabriifi
adabbii jahannamaa irraa sittin
maganfadha. Mokkoroo jireenyaaafi
du'aa irraa, akkasumas mokkoroo
Masiih Addajjaal irraa sittin
maganfadha.” [٢٩١٨]

٥٦ - (٢) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ). اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
الْمَأْثِيمِ وَالْمَغْرَمِ)). [٢٩١٩]

- ٦٢“Yaa Rabbi ani adabbii qabrii irraa sittin maganfadha. Mokkoroo Masiih Addajjaal irraas sittin maganfadha. Mokkoroo jireenyaafi du'aa irraas sittin maganfadha. Yaa Rabbi ani yakkaafi hidaan qabamuu irraa sittin maganfadha.”[\[٤٩١\]](#)

٥٧ - (٣) ((اللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)).[\[٤٩٢\]](#)

- ٦٣“Yaa Rabbi! Ani miidhaa baay'ee lubbuu koo miidheera; si malee kan dilii araaramu hin jiru. Kanaafuu, araarama si biraa ta'e naaf araarami. Ati araaramaa mararfataa waan taateef.”[\[٤٩٣\]](#)

٥٨ - (٤) ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخْرَجْتُ،
وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ
أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. أَنْتَ الْمُقْدِمُ، وَأَنْتَ الْمُؤْخِرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ)). ([٢٨٠]).

- ٦٤ “Yaa Rabbi waan ani hojjadhee
dabarseefi booda aanse, waan ani
iccitiifi mullisee hojjadhe, waan ani
daangaa tareefi waan ati qofti narraa
beektu naaf araarami. Situ dura
buusa; sumatu booda aansas.
Dhugaan gabbaramaan si malee hin
jiru.” [٢٨١]

٥٩ - (٥) ((اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ،
وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)) ([٢٨٩]).

- ٦٥ “Yaa Rabbi si yaadachuu, si
galateeffachuufi ibaadaa kee

gaaromsuu keessatti na
gargaari.”[٢٨٩]

٦٠-(٦) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ
بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدَ إِلَى أَرْذَلِ
الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ
الْقَبْرِ)).[٢٨٨]

٧٧- “Yaa Rabbi ani doynummaa
irraa sittin maganfadha. Lunnummaa
irraas sittin maganfadha. Umurii isa
gadi kufaatti deebifamuu irraas sittin
maganfadha. Mokkoroo addunyaafi
adabbii qabrii irraas sittin
maganfadha.”[٢٨٨]

٦١-(٧) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
النَّارِ)).[٢٨٩]

- ٦٧“Yaa Rabbi ani jannata si
kadheen ibidda irraa sitti
maganfadha.”[٢٨٥]

٦٦- (٨) ((اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى
الْخَلْقِ أَحِنِّي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي
إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاءَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلْمَةَ الْحَقِّ
فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغَنَى
وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرْةَ عَيْنٍ
لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ،
وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَدَّةَ
النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقائِكَ فِي غَيْرِ
ضَرَاءٍ مُضْرَرَةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضْلَلَةٍ، اللَّهُمَّ زَرِّنَا بِزِينَةٍ
الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاءً مُهْتَدِينَ)).([٢٨٦]).

٧٢- “Yaa Rabbi beekumsa kee
fagootiifi dandeettii kee uumama
irratti qabduun waan jireenyi anaaf

gaarii ta'uu beektuun na jiraachisii
yeroo duuti anaaf gaarii ta'uu
beektutti na ajjeesi. Yaa Rabbi ani
fagoofi dhihootti si sodaachuun si
kadha. Yeroo jaalalaafi dallansuus
haqa dubbachuun si kadha.
Durummaafi hiyyummaa keessattis
giddu gala ta'uun si kadha. Qananii
hin dhunnes sin kadha. Gammachuu
ijaa kan hin cinges sin kadha. Murtii
booda jaalalan si kadha. Du'a booda
jirenye gaariin si kadha. Gara fuula
keetii ilaaluu mi'effachuufi,
rakkoon na miidhuufi mokkoroon na
jallisu dhibamuu waliin [du'ee] si
qunnamuuf hawwuun si kadha. Yaa
Rabbi faaya iimaanaatiin nu

bareechii qajeeloo qajeechoo nu taasisi.”[٢٨٥]

٦٣- (٩) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ بِإِنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَّدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرْ لِي دُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)).[٢٨٠]

- ٦٩- “Yaa Allaah ani ‘Ati tokkicha hirkoo hundaa, kan hin dhalleefi hin dhalanne, wanti tokkollee fakkaataa Isaaf hin taane’ ta’uu keetiinin yakka kiyya cufa naaf araaramuu si kadha. Situ araaramaa mararfataadha waan taateef.”[٢٨١]

٦٤- (١٠) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، الْمَنَانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ

يَا قَيْوُمُ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
النَّارِ .([٢٨٩]).

-٧٠ “Yaa Rabbi ani “faaruun kan
kee ta’uudhaan, dhugaan
gabbaramaan si malee hin jiru ati
tokkicha hiriyaan hin qabne, tola
oolaa ta’uu keetiin’ yaa Rabbii
uumaa samiifi dachii! Abbaa
guddinaafi kabajaa! Yaa jiraataa
waan hunda to’ataa! Ani jannatan si
kadha ibidda irraa sittin
maganfadha.” [٢٨٩]

٦٥ - (١١) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ
اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُوَلَّدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ)). ([٢٨٨]).

၁၃- “Yaa Rabbi ani ‘Ati Allaah
dhugaan gabbaramaan si malee hin
jirre, ati tokkicha hirkoo waa hundaa
kan hin dhalleefi hin dhalanne,
wanti tokkollee isaaf fakkaataa hin
taane ragaa bahuudhaanin’ si
kadha.”[٢٨٨]

٢٥ - الأَذْكَارُ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

၁၅. ၂၃ Zikrii yeroo salaata irraa salaamtaa bahanii

၆၆- (۱) ((أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثَلَاثَةً) اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ،
وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارِكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ).([٢٨٩])

၁၅- “Yaa Allaah naaf araarami” si’ a
sadii jedha. Ergasii “yaa Rabbi situ
nagaadha. Nageenyi si biraan

argamas. Yaa abbaa guddinaafi
kabajaa khayriin kee
baay'ateera.”**[٤٨٩]**

٦٧- (٢) ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
[ثلاثًا]، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا
مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدْ مِنْكَ الْجَدُّ))**([٤٨٧]).**

٦٩- “Dhugaan gabbaramaan
Rabbiin malee hin jiru. Inni tokkicha
hiriyaan hin qabneedha.
Mootummaan kan isaati. Faaruunis
kan Isaati. Inni waan hundaa
danda'aadha. Yaa Rabbi waan ati
kennite dhorgataan hin jiru. Waan
ati dhorgatte immoo kennaan hin
jiru. Abbaa qabeenyaa adabbii kee

irraa qabeenyi isaa hin
fayyadu.”[٢٨٥]

٦٨ - (٣) ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا
إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّاءُ الْحَسَنُ، لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ)).([٢٩٠])

٧٤- “Dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru. Inni tokkicha hiriyaan hin qabneedha. Mootummaan kan isaati. Faaruunis kan Isaati. Inni waan hunda irratti danda’aadha. Tooftaafi humni Rabbiin biraa malee hin argamu. Dhugaan gabbaramaan Allaah malee hin jiru. Isa malee hin gabbaru. Qananiin

kan isaati. Tollis kan Isaati. Faaruun gaariinis kan isaati. Dhugaan gabbaramaan Isa malee hin jiru. Odoma kaafiroonni jibbanuu keessaan qulqulleessaa [kana ragaa baana].”[\[٢٩٢\]](#)

٦٩- (٤) ((سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 (ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
 لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ)).[\[٢٩٩\]](#)

٦٨- “Rabbiin qulqullina [isaan malu qulqulla'e]; Faaruun kan Rabbiiti. Rabbiin waan hundarra guddate.” Si'a soddomii sadii jedha. “Dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru. Inni tokkicha hiriyaan hin qabneedha. Mootummaan kan isaati. Faaruunis

kan Isaati. Inni waan hundaa danda'aadha.”[۱۹۹]

۱۹- “Maqaa Rabbii Akkaan Mararfataa Akkaan Rahmata Godhaa Ta'eetiin. **Jedhi:** "Inni Allaah (gabbaramaa dhugaa) tokkicha. Allaahn hirkoo waa hundaati. Hin dhalle hin dhalannes. Wanti tokkollee fakkaataa Isaaf hin taane.”

Maqaa Rabbii Akkaan Mararfataa Akkaan Rahmata Godhaa Ta'eetiin.

Jedhi: "Gooftaa bariittin maganfadha. Hamtuu waan Inni uumee irraa, Hamtuu dukkanaa yeroo dukkanaa'e irraas, Hamtuu guduunfaa keessatti tuftu irraas,

Hamtuu haasidii yeroo inni hassadu
(waanyu) irraas (Rabbittin
maganfadha jedhi).”

Maqaa Rabbii Akkaan Mararfataa
Akkaan Rahmata Godhaa Ta’eetiin.

Jedhi: "Gooftaa namaattin
maganfadha. Mootii namaatti,
Gabbaramaa namaatti, Hamtuu
waswaasii dhokatuufi mul’atuu [٢٩٤]
irraa, Isa qoma nama keessa
waswaasu irraa, Jinniifi nama irraa
kan ta’e (irraan maganfadha).” [٢٩٥]

آية الكرسي

٩٩- “Rabbiin Isa malee haqaan
gabbaramaan hin jiru. Inni
jiraataadha; waan hundaan

dhaabbataadha. Mugaatiis ta'ee
 hirribni Isa hin qabatu. Wanti samii
 keessa jiruufi wanti dachii keessa
 jiru hundi kan Isaati. Inni hayyama
 Isaatiin ala Isa biratti araarsu
 eenyuma? Waan fuuldura isaaniitiifi
 waan duuba isaaniis ni beeka.
 Beekumsa Isaa irraas waan Inni
 fedhetti malee hin marsanu. Kursiin
 Isaa samiifi dachii irra bal'ateera.
 Isaan lamaan tiksун Isa hin
 dadhabsiisu. Inni ol ta'aa,
 guddaadha.”**[٤٦]** Salaata hunda
 booda jedhama.

٧٢ - () لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
 الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْبِي وَيُمِيزُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ) عَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ

၅၇- “Dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru. Inni tokkicha hiriyaan hin qabneedha. Mootummaan kan Isaati. Faaruunis kan Isaati. Ni jiraachisa ni ajjeesas. Inni waan hunda irratti danda'aadha.” Booda salaata Maghribaaifi Subhii si'a kudhan jedhama. [၃၄၅]

٧٣- (٨) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبِّلًا)) بَعْدَ السَّلَامِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ([၃၄၆]).

၅၈- “Yaa Rabbi ani beekumsa fayyadu, soorata gaariifi hojii qeebalamaan si kadha.” Booda salaata Maghribaa irraa salaamtaa bahee jedha. [၃၄၇]

٢٦ - دُعَاءُ صَلَاةِ الْاسْتِخَارَةِ

٩٩. ٩٩. Du'aa'ii salaata Istikhaaraa[٩٩٠]

٧٤- قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ × يُعْلَمُنَا الْاسْتِخَارَةُ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعْلَمُنَا السُّوْرَةُ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: ((إِذَا هَمَ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلَا يَرْكِعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لَيَقُلْ: اللَّهُمَّ اتُّسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلٌهُ وَآجِلُهُ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلٌهُ وَآجِلُهُ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ

وَافْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي
بِهِ([٢٩٢]).

وَمَا نَدِمَ مَنِ اسْتَخَارَ الْخَالِقَ، وَشَأْوَرَ الْمَخْلُوقَينَ
الْمُؤْمِنِينَ وَتَتَبَّعَ فِي أَمْرِهِ،

ایة

۱۰- Jaabir bin Abdullaah (ra) ni jedhe: Ergamaan Rabbii (saw) akka suuraa Qur'aanaa nu barsiisanutti waan hunda keessattuu istikhaaraa (filannoo kadhachuu) nu barsiisu turan. Ni jedhan: “tokkoon keessan yeroo dhimmi wahii isa yaachise salaata waajibaatiin ala raka'aa lama haa salaatu. Ergasii haa jedhu: ‘yaa Rabbi ani beekumsa keetiinin si filachiifadha. Dandeettii keetiinin

dandeettii si kadha. Tola kee guddaa irraas sin kadha. Ati ni dandeessa ani hin danda'u. Ati ni beekta ani hin beeku. Ati beekaa fagooti. Yaa Rabbi yoo dhimmi kun, maqaa dhahee, naaf amantii kiyya keessatti, jiruufi booda kiyya keessatti gaarii ta'e isa naaf murteessii naaf laaffisi. Ergasii barakaa keessa naaf kaa'i. Yoo wanti kun amantii kiyya, jirenya kiyyaafi booda kiyyaaf hamaa ta'uu kan beektu ta'e isa narraa deebisii anas isarraa deebisi. Bakkuma jirutti toltaa naaf murteessi. Ergasii isaan na jaaladhu.”[٢٩]

Namni Rabbiin filachiifatee,
mu'umintoota maryachiisee dhimma

isaa mirkaneeffate hin gaabbu.
Rabbiin ol ta'e ni jedhe: “dhimmicha
keessatti isaan mariyachiisi. Yeroo
murteeffatte Rabbirratti
hirkadhu.”[٤٩٩]

٢٧ – أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

٩٢. ٩٨. Zikriiwan ganamaafi galgalaa

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا
نَبِيَّ بَعْدَهُ([٤٩٨]).

Faaruun kan Rabbii tokkichaati.
Rahmanniifi nageenyi, Nabiyyii
xumuraa irra haa jiraatu:

آية الكرسي

“Shayxaana rahmata Rabbii irraa fageeffamaa ta’e irraa Rabbittin maganfadha: Rabbiin Isa malee haqaan gabbaramaan hin jiru. Inni jiraataadha; waan hundaan dhaabbataadha. Mugaatiis ta’ee hirribni Isa hin qabatu. Wanti samii keessa jiruufi wanti dachii keessa jiru hundi kan Isaati. Inni hayyama Isaatiin ala Isa biratti araarsu eenyuma? Waan fuuldura isaaniitiifi waan duuba isaaniis ni beeka. Beekumsa Isaa irraas waan Inni fedhetti malee hin marsanu. Kursiin Isaa samiifi dachii irra bal’ateera. Isaan lamaan tiksун Isa hin dadhabsiisu. Inni ol ta’aa, guddaadha.”[Q98]

الموذات

Γꝝ- “Maqaa Rabbii Akkaan
 Mararfataa Akkaan Rahmata
 Godhaa Ta’eetiin. **Jedhi:** "Inni
 Allaah (gabbaramaa dhugaa)
 tokkicha. Allaahn hirkoo waa
 hundaati. Hin dhalle hin dhalannes.
 Wanti tokkollee fakkaataa Isaaf hin
 taane.”

Maqaa Rabbii Akkaan Mararfataa
 Akkaan Rahmata Godhaa Ta’eetiin.
Jedhi: "Gooftaa bariittin
 maganfadha. Hamtuu waan Inni
 uumee irraa, Hamtuu dukkanaa
 yeroo dukkanaa'e irraas, Hamtuu
 guduunfaa keessatti tuftu irraas,
 Hamtuu haasidii yeroo inni hassadu

(waanyu) irraas (Rabbittin maganfadha jedhi).”

Maqaa Rabbii Akkaan Mararfataa Akkaan Rahmata Godhaa Ta’eetiin.

Jedhi: "Gooftaa namaattin maganfadha. Mootii namaatti, Gabbaramaa namaatti, Hamtuu waswaasii dhokatuufi mul’atuu [٢٩٩]
irraa, Isa qoma namaa keessa waswaasu irraa, Jinniifi nama irraa kan ta’e (**irraan maganfadha**).”
(Hundaawuu si’ a sadii qara’ a) [٢٩٩]

٧٧- (٣) ((أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ([٢٩٩]),
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي
هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ([٢٩٤])، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْكَسْلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ
فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ([٢٩٥]).

-٨٢“Nuti bariisifanne.

Mootummaanis kan Rabbii ta’ee
bule. [٢٩٦] Faaruun kan Rabbiiti.

Dhugaan gabbaramaan Rabbiin
malee hin jiru. Inni tokkicha hiriya
hin qabneedha. Mootummaan kan
isaati. Faaruunis kan Isaati. Inni
waan hunda irratti danda’aadha. Yaa
Rabbi ani toltaa guyyaa [٢٩٧] har’aa
keessa jiruufi toltaa booda isaa jiru
sin kadha. Sherrii guyyaa harraa
keessa jiruufi sherrii booda isaatii

jiruu irraa sittin maganfadha. Yaa Rabbi taatiyoo (*nuffaa*)fi dulluma hamaa irraa sittin maganfadha. Yaa Rabbi adabbii ibidda keessaatiifi adabbii qabrii keessaa irraa sittin maganfadha.”[\[١٢٩\]](#)

٧٨- (٤) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا))، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ.)[\(\[١٢٨\]\)](#)[\(\[١٢٩\]\)](#).

-٨٣ Yaa Rabbi siin bariisifannee siin dhiisifanne.[\[١٢٩\]](#) Siin jiraannee siin duuna. Deebiinis garuma keeti.”[\[١٢٩\]](#)

٧٩- (٥) ((اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدُكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ،

أَبُوكَ([٢٦٣]) لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوكَ([٢٦٤]) فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ([٢٦٥]).

-٨٤“Yaa Rabbi ati gooftaa kiyya.
 Situ na uumee ani gabricha keeti.
 Ani hangan danda'een baallamaafi
 waadaa keerran jira. Hamtun
 hojjadhe irraa Rabbittin
 maganfadha. Qananii ati natti oolte
 nan mirkaneessa. Yakka kiyyas nan
 amana. Kan yakka araaramu si qofa
 waan ta 'eef naa araarami.”[٢٦٠]

٨٠-٦) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ([٢٦١]) أَشْهُدُكَ،
 وَأَشْهُدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتِكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ،
 أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ،
 وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ)) (أربع
 مَرَّاتٍ)([٢٦٩]).

-۸۵ Yaa Rabbi ani si ragaa taasifataa, baattota Arshii keetii, maleykota keetiifi uumama kee hunda akka ati Allaah taate, si malee haqaan kan gabbaramu akka hin jirre, tokkicha hiriya hin qabneefi Muhammad gabricha keetiifi ergamaa kee ta'uu ragaa baasifataan bariisifadhe.[\[۲۵۷\]](#)” (si'a afur jedha).[\[۲۵۸\]](#)

-۸۶ ((اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي (۲۵۸) [] مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ (۲۵۹)).

-۸۷ Yaa Rabbi qananii irraa wanti ana yookiin uumama kee irraa nama tokko waliin bule[\[۲۵۹\]](#) sima qofa biraayyi. Ati tokkicha hiriya hin

qabneedha. Faaruun keeti; galannis
kan keeti.”[\[٤٥٢\]](#)

٨٢- ((اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدْنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي
فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ. اللَّهُمَّ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)) (ثلاَثَ
مرَّاتٍ)[\(٤٥٣\)](#).

-٨٧ Yaa Rabbi qaama kiyya
keessatti nagaa naa godhi. Yaa
Rabbi dhageettii kiyya keessatti
nagaa na godhi. Yaa Rabbi agartuu
kiyya keessatti nagaa na godhi.
Dhugaan gabbaramaan si malee hin
jiru. Yaa Rabbi ani kufriifi
hiyyummaa irraa sittin maganfadha.
Adabbii qabrii irraas sittin

maganfadha. Dhugaan gabbaramaan si malee hin jiru.” (si’ a sadii jedha). [900]

٨٣- (٩) ((حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ)) (سَبْعَ مَرَّاتٍ) [٩٠٢].

-٨٨“Gahaan kiyya Allaahdha.
Dhugaan gabbaramaan Isa malee hin
jiru. Isarratti hirkadheera. Inni abbaa
arshii guddaati.” (si’ a torba
jedha). [909]

٨٤- (١٠) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ:
فِي دِينِي وَدِينِ أَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ
عَوْرَاتِي، وَامْنُ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ

يَدِيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي،
وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ
تَحْتِي). ([٩٠٩]).

-٨٩ Yaa Rabbi ani addunyaafii
 aakhiraatti dhiifamaafi nageenyan si
 kadha. Yaa Rabbi ani amantii,
 addunyaa, maatiifi qabeenya kiyya
 keessatti dhiifamaafi nageenyan si
 kadha. Yaa Rabbi qaama kiyyas naa
 satari. Soda irraas nagaa na godhi.
 Yaa Rabbi fuuldura kiyyaan, duuba
 kiyyaan, mirga kiyyaan, bitaa
 kiyyaafi gubbaa kiyyaan na tixi.
 Jala kiyyaan gadi liqimfamuu irraas
 sittin maganfadha.” [\[٩٠٨\]](#)

٨٥- (١١) ((اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَاطِرَ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَ مَلِيكُهُ، أَشْهَدُ

أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ
شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ كِه، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي
سُوءً، أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ).([908])

٤٠- Yaa Rabbii beekaa fagoofi
dhihoo! Uumaa samiifi dachii!
Gooftaa waa hundaafi horataa isaa
kan taate! ‘Dhugaan gabbaramaan si
malee hin jiruu’ ragaan baha.
Hamtuu lubbuu kiyyaa, hamtuu
shayxaanaafi shirkii isaa irraa sittin
maganfadha. Akkasumas lubbuu
koo irratti hamtuu hojjachuu yookiin
Muslima kamittuu harkisuu irraa
sittin maganfadha.”[909]

٨٦-(١٢) ((بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ
شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ)) (ثلاث مرات)[909].

“Q- Maqaa Rabbii isa wanti tokkollee samiifi dachii keessatti maqaa Isaa waliin hin miineetiin. Inni argaa beekaadha.” (si’ a sadii jedha). [90]

٨٧-١٣) ((رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبِّاً، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا،
وَبِمُحَمَّدٍ × نَبِيًّا)) (ثلاثَ مَرَّاتٍ) ([٩٠٤]).

- ۹۲ Rabbiin gabbaramaa ta'uu,
Islaamni amantii kiyya ta'uufi
Muhammad (saw) Nabiyyii naaf
ta'uu jaaladheera.” (si'a sadii
jedha). [٩٢٠]

٨٨- (٤) ((يَا حَيُّ يَا قَيْوُمْ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغْفِرُ
أَصْلَحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكُلِّنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةً
عَيْنِ)). ([٩٠٢]).

- ۹۳ Yaa Rabbii jiraataa waan hunda
to'ataa! Rahmata keen
birmachiifadha. Dhimma kiyya
hunda naaf tolchi. Milluu ijaa
tokkollee gara lubbuu kiyyaatti na
hin hirkisin.”[\[٩٥٩\]](#)

۸۹- (۱۵) ((أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ([۹۰۹])، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا
الْيَوْمِ([۹۰۸]): فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنُورَهُ، وَبَرَكَتَهُ،
وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا
بَعْدَهُ([۹۰۸]).

۹۴- Bariisifanne[\[۹۰۹\]](#).

Mootummaanis kan Rabbii mootii
aalamaa ta'ee bariisifate. **Yaa Rabbi
ani khayrii guyyaa kanaan si kadha:**
injifannoo isaa, tumsa isaa, ifaa isaa,
barakaa isaafi qajeeluma isaa.

Sherrii isa keessa jiruufi sherrii
booda isaa jiru irraa sittin
maganfadha.”[\[909\]](#)

٩٠- (١٦) ((أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ
الْإِسْلَامِ))، وَعَلَى كِلِّمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى
دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ،
خَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)).[\[908\]](#)

- ٩٥ Uumama Islaamaa irratti, jecha
ikhlaasaa irratti, amantii Nabiyyii
keenya muhammad irrattiifi karaa
abbaa keenyaa Ibraahim irratti
Muslima sirrii taanee
bariisifanne[\[990\]](#). Ibraahim
mushrika irraa hin taane.”[\[991\]](#)

٩١- (١٧) ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ)) (مائة
مرّة).[\[999\]](#)

٤٦- “Faaruu isaa waliinin qulqullina
Rabbiin malu [isa qulqulleessa].”
(si’ a dhibba jedha). [\[999\]](#)

٩٢- (١٨) ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))
(عشر مرات)[\[998\]](#)، أو (مرّةً واحدةً عند
الكسيل)[\[998\]](#).

- ٩٧ Dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru. Inni tokkicha hiriyaan hin qabneedha. Mootummaan kan Isaati. Faaruunis kan Isaati. Inni waan hunda irratti danda’aadha.”
(si’ a kudhan[\[999\]](#) jedha yeroo dadhabpii tokkicha[\[999\]](#) jedha).

٩٣ - (١٩) ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))
(مائة مرّة إذا أصبح).[٩٩٧]

- ٩٨ Dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru. Inni tokkicha hiriyaan hin qabneedha. Mootummaan kan isaati. Faaruunis kan Isaati. Inni waan hunda irratti danda'aadha.”
(Ganama si'a dhibba jedha). [٩٩٨]

٩٤ - (٢٠) ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ: عَذَّ خَلْقِهِ،
وَرِضا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ))
(ثلاث مرّات إذا أصبح).[٩٩٩]

- ٩٩ Faaruu isaa waliin qulqullina Rabbiin malun [isa qulqulleessa]: hanga baay'ina uumama isaatiin, hanga jaalala lubbuu isaatiin, hanga

madaala arshii isaatiifi maddii
barreeffama jecha isaatiin.”

(Ganama si'a sadii jedha). [٩٩١]

٩٥ - (٢١) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا
طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبِّلًا)) (إِذَا أَصْبَحَ) ([٩٩٩]).

- ١٠٠ Yaa Rabbi ani barumsa
fayyadu, soorata gaariifi hojii
qeebalantuun si kadha.”

(Ganama) [٩٩٩]

٩٦ - (٢٢) ((أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ)) (مِائَةَ

- ١٠١ Araaraman Rabbiin kadha.
Badii irraas gara Isaattin deebi'a.”

(Guyyaatti si'a dhibba jedhe) [٩٩٨]

٩٧ - (٢٣) ((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ)) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَمْسَى) ([٩٩٨]).

- ١٠٢ Hamtuu waan inni uumee irraa
jecha Rabbii guutuuttin
maganfadha.” (Galgala si’
sadii) [٩٩٦]

٩٨ - (٤) ((اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِّلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ))
.(عشر مرّات) [٩٩٦].

١٠٩- Yaa Rabbi rahmataafi
nageenya Nabiyyii keenya
Muhammad irratti buusi.” (si’
kudhan) [٩٩٧]

٢٨ - أَذْكَارُ النَّوْمِ

٩٥. ٣٥ Zikriiwwan hirribaa

يجمع كفيه

اية الكرسي ||

امن الرسول

٢٠٨- Harka isaa lamaan walitti
qabee isaan keessatti qara'ee afuufa:
“Maqaa Rabbii Akkaan Mararfataa
Akkaan Rahmata Godhaa Ta'eetiin.

Jedhi: "Inni Allaah (gabbaramaa
dhugaa) tokkicha. Allaahn hirkoo
waa hundaati. Hin dhalle hin
dhalannes. Wanti tokkollee
fakkaataa Isaaf hin taane."

Maqaa Rabbii Akkaan Mararfataa
Akkaan Rahmata Godhaa Ta'eetiin.

Jedhi: "Gooftaa bariittin
maganfadha. Hamtuu waan Inni
uumee irraa, Hamtuu dukkanaa
yeroo dukkanaa'e irraas, Hamtuu
guduunfaa keessatti tuftu irraas,

Hamtuu haasidii yeroo inni hassadu
(waanyu) irraas (Rabbittin
maganfadha jedhi).”

Maqaa Rabbii Akkaan Mararfataa
Akkaan Rahmata Godhaa Ta’eetiin.

Jedhi: "Gooftaa namaattin
maganfadha. Mootii namaatti,
Gabbaramaa namaatti, Hamtuu
waswaasii dhokatuufi mul’atuu [975]

irraa, Isa qoma namaa keessa
waswaasu irraa, Jinniifi nama irraa
kan ta’e (irraan maganfadha).”

(Hundaawuu si’ a sadii qara’a) [980]

Q08- “Rabbiin Isa malee haqaan
gabbaramaan hin jiru. Inni
jiraataadha; waan hundaan

dhaabbataadha. Mugaatiis ta'ee
hirribni Isa hin qabatu. Wanti samii
keessa jiruufi wanti dachii keessa
jiru hundi kan Isaati. Inni hayyama
Isaatiin ala Isa biratti araarsu
eenyuma? Waan fuuldura isaaniitiifi
waan duuba isaaniis ni beeka.
Beekumsa Isaa irraas waan Inni
fedhetti malee hin marsanu. Kursiin
Isaa samiifi dachii irra bal'ateera.
Isaan lamaan tiksун Isa hin
dadhabsiisu. Inni ol ta'aa,
guddaadha.”[١٩٨]

امن الرسول

٢٠٩- Ergamichi waan Gooftaa isaa
irraa gara isaatti buufametti
amanеera; mu'uminoonnis

amananiiru. Hundumtuu Rabbitti, malaa'ikoota Isaatti, kitaabota Isaafi ergamoota Isaatti amananiiru. [989]

"Nuti ergamoota Isaa irraa tokkollee adda hin baafnu" [jedhan]. "Nuti dhageenye; ajajamnes. Gooftaa keenya! Araarama kee [barbaanna]. Deebiinis garuma keeti" jedhan.

Rabbiin lubbuu tokkollee dandeettii isheetiin ala hin dirqisiisu. [Toltuu irraa] wanti isheen carraaqqate isheed humaafi; [hamtuu irraa] wanti isheen carraaqqattes ishee irratti ta'a. "Gooftaa keenya! Yoo daganne yookiin dogoggorre nu hin qabin. Gooftaa keenya! Ba'aa guddaa akka warra nuun duraa irratti baachifte

nurratti hin baachisin. Gooftaa keenya! Waan isatti dandeettiin nuuf hin jirre nu hin baachisin. Irras nuuf dabri; nuuf araarami. Rahmatas nuuf godhi. Ati gargaaraa keenya. Ummata kaafirootaa irrattis nuuf tumsi.”[٩٨٩]

١٠٢ - (٤) ((بِاسْمِكَ)) [٩٨٨] رَبِّي وَضَعْتُ
جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعْهُ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا،
وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاخْفَظْهَا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ
الصَّالِحِينَ). ([٩٨٨]).

٢٠٩- “Yaa Rabbi maqaa keetiinin cinaacha kiyya keeyyadhe. Siinin ol kaasa. Yoo lubbuu kiyya fuuteef ishee mararfadhu. Yoo ishee deebiftee ergiteef waan gabroottan kee gaggaarii tiksituun ishee tiksi.”

١٠٣ - (٥) ((اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا،
لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْبَبْتَهَا فَاخْفَظْهَا، وَإِنْ
أَمْتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
الْعَافِيَةَ)). [٩٨٦].

- ١٠٨ Yaa Rabbi ati lubbuu kiyya
uumteetta. Situ ishee ajjeesa.
Duutiifi jireenyi ishee kan keeti.
Yoo ishee jiraachifteef ishee tiksi.
Yoo ishee ajjeeftteef isheef araarami.
Yaa Rabbi ani nageenyan si
kadha.” [٩٨٩]

٤ - (٦) ((اللَّهُمَّ قِنِي)) [٩٨٧] عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ
عِبَادَكَ). [٩٨٨].

- ١٠٩ Yaa Rabbi guyyaa gabroottan
kee kaaftu ibidda kee irraa na tiksi.”
(si’ a sadii) [٩٨٠]

١٠٥ - (٧) ((بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ
وَأَحْيَا)). ([٩٨٩]).

- ١١٠ Yaa Rabbi maqaa keetiinin
du'a; isaanin jiraadhas.” [٩٨٩]

١٠٦ - (٨) ((سُبْحَانَ اللَّهِ (ثَلَاثًا وَتِلْمِيزَةً) وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ (ثَلَاثًا وَتِلْمِيزَةً) وَاللَّهُ أَكْبَرُ (أَرْبَعًا
وَتِلْمِيزَةً)). ([٩٨٩]).

- ١١١ Rabbiin qulqullina isaan malu
qulqullaa'e. Faaruun kan Rabbiiti.”
(si'a soddomii sadii) “Rabbiin
hundarra guddaadha.” (si'a
soddomii afur). [٩٨٨]

١٠٧ - (٩) ((اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ
الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ
شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبَّ وَالنَّوْى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ

وَالْإِنْجِيلِ، وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ
 أَنْتَ أَخِذُ بِنَاصِيَتِهِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ
 شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ
 الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ
 دُونَكَ شَيْءٌ، افْضِ عَنَّا الدِّينَ وَأَغْنِنَا مِنَ
 الْفَقْرِ)([988]).

٤٠٩- Yaa Allaah gooftaa samii
 torbaniifi gooftaa arshii guddaa,
 gooftaa keenyaafi gooftaa waa
 hundaa, yaa Rabbii keenyaafi Rabbii
 waa hundaa! Biqilchaa midhaaniifi
 nakhlii! Yaa buusaa Tawraat,
 Injiliifi Furqaan! Sherrii waa
 hundaa kan ati sammuu isaa qabde
 irraa sittin maganfadha. Yaa Rabbi
 ati jalqaba; si dura homaa hin jiru.
 Ati booda jiraataadha; si booda
 homaa hin jiru. Ati hundaa oli;

gubbaa kee homaa hin jiru. Ati iccitii beekaadha; wanti sirraa dhokatu hin jiru. Hidaa nurraa kaffalii hiyyummaa irraa nu duroomsi.”[\[98⁹\]](#)

١٠٨ - (١٠) ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا،
وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا
مُؤْوِيَ).[\(\[98⁹\]\)](#)

- ١١٣ Faaruun kan Rabbii isa nu nyaachisee, nu obaasee, nuuf gaheefi nu qubsiiseeti. Meeqaatamatu waan isaaf gahuufi isa qubsiisu hin qabne!”[\[98⁷\]](#)

١٠٩ - (١١) ((اللَّهُمَّ عَالَمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَاطِرُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَ مَلِيكُهُ، أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَ مِنْ

شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكِهِ، وَأَنْ أَفْتَرَفَ عَلَى نَفْسِي
سُوءً، أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ).([٩٨٥]).

٢٢٨- Yaa Rabbii beekaa fagoofi
dhihoo! Uumaa samiifi dachii!
Gooftaa waa hundaafi horataa isaa
kan taate! ‘Dhugaan gabbaramaan si
malee hin jiruu’ ragaan baha.
Hamtuu lubbuu kiyyaa, hamtuu
shayxaanaafi finyoo (**haada**) isaa
irraa sittin maganfadha. Akkasumas
lubbuu koo irratti hamtuu hojjachuu
yookiin Muslima kamittuu harkisuu
irraa sittin maganfadha.”**[٩٩٠]**

١١٠-١٢) ((يَقْرَأُ {الْم} تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ،
وَتَبَارَكَ الَّذِي بَيَّدَهُ الْمُلْكُ).([٩٩١]).

١١٥ Suurat Assajdaafi suurat Almulk qara'a. [٩٩٩]

١١١-١١٣ ((اللَّهُمَّ)[٩٩٧]) أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ،
وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ،
وَأَجَّاثُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا
مَلْجَأً وَلَا مَنْجَأًا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي
أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ)) (٩٩٨).

٢٢٩- Yaa Rabbi lubbuu kiyya sitti
kenneera. Dhimma kiyyas gara
keetti hirkiseera. Fuula kiyyas gara
keetti deebiseera. Dugda kiyyas gara
keetti hirkiseera. Rahmata kee
kajeelaa adabbii kee sodaataa. Bakki
sirraa itti dabaniifi itti bilisa ta'an
gara kee malee hin jiru. Kitaaba kee
ati buufteefi Nabiyyii kee ati
ergitetti amaneera.” [٩٩٨]

٢٩ - الدُّعَاءُ إِذَا تَقْلَبَ لَيْلًا

٩٠. ٣٦. Du'aa'ii yeroo hirriba keessa gara galanii

١١٢ - ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ)) [٩٥٥].

- ١١٧ Dhugaan gabbaramaan Rabbii tokkicha injifataa malee hin jiru. Inni Rabbii samii, dachiifi waan jidduu isaaniiti. Injifataa araaramaadha.” [٩٥٥]

٣٠ - دُعَاءُ الْفَرَّعِ فِي النَّوْمِ وَمَنْ بُلِّيَ بِالْوَحْشَةِ

٩١. ٣٧. Du'aa'ii naasuu hirriba keessaafi nama bineensa wahitiin rifatee

١١٣ - ((أَعُوذُ بِكَلْمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ خَضَبِهِ
وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ
وَأَنْ يَخْضُرُونَ)). [٩٦٧]

١١٨ Dallansuu Rabbii, adabbiis
isaa, hamtuu gabroottan isaa, nama
maraachisuu shayxaanaafi natti
dhufuu irraa jecha Rabbii guutuu
ta'ettin maganfadha.” [٩٦٨]

٣١ - مَا يَفْعَلُ مَنْ رَأَى الرُّؤْيَا أَوِ الْحُلْمَ

Waan namni abjuu fokkataa . ٣٢
arge hojjatu ١٤- (١) ((يَنْفُثُ عَنْ
يَسَارِهِ)) (ثلاثة) [٩٦٠].

١١٩ Bitaa isaa irraan yeroo sadii
afuufa. [٩٦١]

(٢) ((يَسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ مَا رَأَى)) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ([٩٩٩]).

Si'a sadii shayxaanaafi hamtuu arge irraa Rabbitti maganfata. [٩٩٩]

(٣) ((لَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا)). ([٩٩٨]).

Nama tokkottuu isa hin himu. [٩٩٨]

(٤) ((يَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ)). ([٩٩٦]).

Cinaacha irra ture irraa ni jijjiirrata. [٩٩٩]

١١٥-(٥) ((يَقُومُ يُصَلِّي إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ)). ([٩٩٧]).

- ۱۲۰ Yoo fedheef ol ka'ee
salaata. [٩٩٥]

٣٢ - دُعاءُ قُوَّتِ الْوِتْرِ

٩٩١. . ٣٨ Du'aa'ii qunuutii witrii

١١٦- (١) ((اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي
فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي
فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرًّا مَا قَضَيْتَ؛ فَإِنَّكَ تَقْضِي
وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَّتْ، [وَلَا
يَعْزُزُ مَنْ عَادَيْتَ]، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا
وَتَعَالَيْتَ)). ([٩٧٠])

٩٩٢- Yaa Rabbi warra qajeelchitee
wajjin na qajeelchi; warra nagaa
gootee wajjin nagaa na godhi; warra
jaalalloo godhattee wajjin jaalalloo
na godhadhu. Waan kennite keessa
barakaa naaf godhi. Hamtuu waan

murteessite irraa na tiksi. Ati ni murteessita sirratti hin murteeffamu waan ta'eef. Dubbiin, nama ati jaalalloo godhatte wanti xiqqeessu hin jiru. [Nama ati diina godhatte kan kabaju hin jiru]. Yaa Rabbii keenya tolli kee baay'ateera; ol taateettas." [٩٧]

١١٧ - (٢) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْبَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)). [٩٨]

- ١٢٢ Yaa Rabbi ani dallansuu keerraa jaalala keetti, adabbi kee irraa nageenya keettin maganfadha. Faaruu kee lakkaa'ee hin fixu. Ati

akkuma lubbuu kee
faarsiteedha.”[٩٢٩]

١١٨ - (٣) ((اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَإِنَّكَ نُصَدِّي
وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْفُدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ،
وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ
الْخَيْرَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْضَعُ لَكَ،
وَنَخْلُعُ مَنْ يَكْفُرُكَ)).[٩٢٨]) .

- ١٢٣ Yaa Rabbi si qofa gabbarra.
Siif salaannee siif sujuunna. Gara
keetti fiigna jaalala keetti ariifanna.
Rahmata kee kajeellaa. Adabbii kee
sodaanna. Adabbiin kee kaafiroota
qunnamaadha. Yaa Rabbi si
gargaarsifanna. Araaramas sirra
barbaanna. Gaariidhaan si faarsina.
Si hin morminu. Sitti amanna siif

ajajamna. Nama si mormu irraa ni fagaanna.”[\[٩٢٨\]](#)

٣٣ - الذِّكْرُ عَقِبَ السَّلَامِ مِنَ الْوِثْرِ

٩٨. ٣٩ Zikrii yeroo witrii irraa salaamtaa bahanii

١١٩ - ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ)) ثلَاثَ مَرَاتٍ
وَالثَّالِثَةُ يَجْهَرُ بِهَا وَيَمْدُدُ بِهَا صَوْتَهُ يَقُولُ: [رَبِّ
الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ] ([٩٢٩]).

١٢٤ - Mootii qulqulluu, qulqullina
isaan malun [qulqulleessa]. Si'a
sadii jedha. Ishee sadaffaa sagalee ol
fuudhee dheeresssee jedha. Ergasii
“Rabbii maleykaafi Jibriil” jechuu
dabala.[\[٩٢٩\]](#)

٣٤ - دُعَاءُ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ

٩٨. . ٤٠. Du'aa'ii yaaddoofi gaddaa

١٢٠ - (١) ((اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمْتَكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاوْكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمِّيَّتْ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي)). ([٩٧٧]).

١٢٥ - Yaa Rabbi ani gabricha keeti.
Ilma gabricha keetiiti. Ilma gabrittii
keetiiti. Sammuun kiyya sirka jira.
Murtiin kee narratti
raawwatamaadha. Murtiin kee anaaf
haqa. Maqaa kee hundaa kan ati
ittiin of moggaafte, yookiin kitaaba
kee keessatti buufte, yookiin

uumama kee irraa tokko barsiifte
yookiin beekumsa fagoo si bira jiru
keessatti filatteenin akka ati
Qur'aana boqonnaa qalbii kiyyaa,
ifaa qoma kootii, dhabamsiisaa
gadda kiyyaatiifi deemsisaa yaaddoo
kiyyaa taasiftun Si kadha.”[٩٢٨]

١٢١ - (٢) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ
وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُنْبِ،
وَضَلَّعِ الدِّينِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)) (٩٤٥).

٦٩٩ - Yaa Rabbi ani yaaddoofi
gadda, dadhabbiifi taatiyoo,
doynummaafi luynummaa, hidaan
ulfaachuufi namootaan mo'atamuu
irraa sittin maganfadha.”[٩٥٩]

٩٩. ٤. ١ Du'aa'ii Yeroo Cinqii

١٢٢ - (١) ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ)). [٩٥٩]

- ١٢٧ Dhugaan gabbaramaan Rabbii
guddaa obsaa malee hin jiru.
Dhugaan gabbaramaan Rabbii arshii
guddaa malee hin jiru. Dhugaan
gabbaramaan Rabbii samii, dachiifi
Rabbii arshii guddaa malee hin
jiru.” [٩٥٩]

١٢٣ - (٢) ((اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكْلِنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةً عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)). [٩٥٨]

- ١٢٨ Yaa Rabbi rahmata keen
kajeelaa milluu ijaatiif lubbuu
kiyyatti na hin hirkisin. Dhimma
kiyya hundaa naaf gaaromsi.
Dhugaan gabbaramaan si malee hin
jiru.” [\[٩٤٨\]](#)

١٢٤ - (٣) ((لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ)). [\[٩٤٩\]](#)

- ١٢٩ Dhugaan gabbaramaan si
malee hin jiru. Sin qulqulleessa. Ani
miidhaa raawwatoota irraa
ta’eera.” [\[٩٥٥\]](#)

١٢٥ - (٤) ((اللَّهُ اللَّهُ رَبِّيْ لَا اشْرِكُ بِهِ
شَيْئًا)). [\[٩٥٦\]](#)

- ١٣٠ Allaahn gooftaa kiyya homaa
Isatti hin qindeessu.” [\[٩٥٧\]](#)

٣٦ - دُعَاءُ لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَذِي السُّلْطَانِ

٩٩. ٤٢ Du'aa'ii yeroo diinaafi abbaa taayitaa qunnaman godhamu

١٢٦- (١) ((اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ)). [٩٠٠]

- ١٣١ Yaa Rabbi nuti qoma isaanii keessa si godhanna. Hamtuu isaanii irraa sitti maganfanna.” [٩٠٩]

١٢٧- (٢) ((اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضْدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَفَاتِلُ)). [٩٠٩]

- ١٣٢ Yaa Rabbi ati irree kooti. Ati gargaaraa kooti. Siinin tooftaa baafadha. Siinin diina injifadha. Siinin diinaan lola.” [٩٠٩]

١٢٨ - (٣) ((حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)) ([٩٠٨]).

- ١٣٣ Gahaan keenya Rabbii isarratti hirkachuun waa tole!" [٩٠٨]

٣٧ - دُعَاءٌ مَنْ خَافَ ظُلْمَ السُّلْطَانِ

٩١. . ٤ ٣ Du'aa'ii nama miidhaa mootii sodaatee

١٢٩ - (١) ((اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ،
وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلَائِقِكَ، أَنْ يَقْرُطَ عَلَيَّ أَحَدُ مِنْهُمْ أَوْ
يَطْغَى، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ شَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ)) ([٩٠٦]).

- ١٣٤ Yaa Allaah gooftaa samii torbanii! Gooftaa arshii guddaa!
Abalu ilma abaluufi humnoota isaa,
tokkoon isaanii daangaa natti taruu

yookiin na miidhuu irraa tiksaa naaf ta'i. Tiksaan kee guddate. Faaruun keetis guddate. Dhugaan gabbaramaan si malee hin jiru.”**[٩٠٥]**

١٣٠ - ((اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعاً،
 اللَّهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ، الْمُمْسِكُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ أَنْ يَقْعُنَ عَلَى
 الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ، وَجُنُودِهِ
 وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ، مِنْ الْجِنِّ وَالإِنْسِ، اللَّهُمَّ كُنْ
 لِي جَاراً مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ ثَناؤكَ وَعَزَّ جَارُكَ،
 وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)) (ثلاث
 مرّاتٍ).**[٩٠٦]**

- ١٣٥ Rabbiin hundarra guddaadha.
 Rabbiin uumama isaa hundarra
 guddaadha. Rabbiin waan ani
 sodaadhu hundarra injifataadha.

Rabbii isa dhugaan gabbaramaan isa malee hin jirre, kan akka samiin torban eeyyama isaatiin malee dachii irra hin buune qabettin hamtuu gabricha kee abaluu, loltoota isaa, hordoftootaafi jaalalloo isaa jinniifi namoota irraa ta'an irraa maganfadha. Yaa Rabbi hamtuu isaanii irraa nagaa baasaa naaf ta'i. Faaruun kee guddate; nagaa godhuun keetis guddate. Maqaan kee toltuun isaa baay'ate. Dhugaan gabbaramaan si malee hin jiru."

(si'a sadii) [٩٠٤]

٣٨ – الدُّعَاءُ عَلَى الْعَدُوِّ

٩٤. ٤٤ Du'aa'ii Diina irratti
godhamu

١٣١ - ((اللَّهُمَّ مُنْزَلُ الْكِتَابِ، سَرِيعُ الْحِسَابِ،
اَهْزِمُ الْأَخْرَابَ، اللَّهُمَّ اهْرِمْهُمْ
وَزَلْزِلْهُمْ)). ([٩٢٠])

- ١٣٦ Yaa Rabbii buusaa kitaabaa!
Qorannoo ariifataa! Garee diinaa
bittinneessi. Yaa Rabbi isaan
bittinneessii isaan urgufi.” [٩٢١]

٣٩ - مَا يَقُولُ مَنْ خَافَ قَوْمًا

٤٥. ٤٥ Waan namni ummata
wahii sodaate jedhu

١٣٢ - ((اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ)). ([٩٢٩])

٩٧٩- Yaa Rabbi waan feeteen isaan
narraa gahi.” [٩٢٩]

٤ - دُعَاءُ مَنْ أَصَابَهُ وَسُوَاسَةُ فِي الإِيمَانِ

٨٦. ٤. Du'aa'ii nama shakkiin iimaana keessatti isa mudatee

١٣٣- (١) ((يَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ)). ([٩١٨]).

١٣٤- (٢) ((يَنْتَهِي عَمَّا وَسَوْسَ فِيهِ)). ([٩١٨]).

١٣٤- (٣) ((يَقُولُ: (أَمَدْتُ بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ)). ([٩٢٧]).

١٣٥- (٤) ((يَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿﴿﴾)). ([٩٢٩]).

١٩١- Rabbitti maganfata.” [٩١٧]

Waan shakke sana irraa ni
dhaabbata.” [٩١٧]

١٩٢- “Rabbiifi ergamoota isaatti
amaneera” jedha. [٩٩٠]

- ١٤ - Jecha Rabbii kana qara'a:
“Inni duruma jira; kan boodaatis;
mul'ataadha; dhokataas [argaadha];
Inni waan hunda beekaadha.” [\[٩٩٦\]](#)

٤ - دُعَاءُ قَضَاءِ الدِّينِ

٤٧. Du'aa'ii hidaa kaffaluu

١٣٦- (١) ((اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ،
وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكِ عَمَّنْ سِوَاكَ)) [\(٩٩٩\)](#).

١٤٠- Yaa Rabbi halaala keetiin
haraama kee irraa na tiksi. Tola
keetiin waan si malee jiru irraa of na
geessisi.” [\[٩٩٩\]](#)

١٣٧- (٢) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ
وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُنُونِ،
وَضَلَّعِ الدِّينِ وَغَلَبةِ الرِّجَالِ)) [\(٩٩٨\)](#).

٢٨٩- Yaa Rabbi ani yaaddoofi
gadda, dadhabbiifi taatiyoo,
doynummaafi lunnummaa, ulfina
hidaafi namootaan mo'atamoo irraa
sittin maganfadha.”[\[٩٩٨\]](#)

٤٢ – دُعَاءُ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ

٤١. ٤٢. Du'aa'ii woswaasii salaataafi Qur'aana keessatti nama mudateef godhamu

١٣٨ - ((أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَاتَّفُنْ
عَلَى يَسَارِكَ (ثَلَاثَةً))[\[٩٩٩\]](#)).

٢٩١- Shayxaana abaaramaa irraa
Rabbittin maganfadha.” Ergasii gara
bitaatti yeroo sadii tufa.[\[٩٩٩\]](#)

٤٣ – دُعَاءُ مَنِ اسْتَصْنَعَ عَلَيْهِ أَمْرٌ

٨٨. ٨٩. Du'aa'ii nama dhimmi wahii itti ulfaate

١٣٩ - ((اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ
تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا)) ([٩٩٦]).

٢٨٨- Yaa Rabbi waan ati laaffifte
malee laafaan hin jiru. Ati yeroo
feete gadda laafaa taasifta.” [٩٩٥]

٤ - مَا يَقُولُ وَيَفْعُلُ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا

٨٨. ٨٠. Waan namni yakka hojjate jedhuufi hojjatu

١٤ - ((مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُخْسِنُ الطُّهُورَ،
ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَرَّ
اللَّهُ لَهُ)) ([٩٩٠]).

٢٨٨- Gabrichi tokko yoo yakka
wahii raawwatee wuduu
gaaromfatee ergasii dhaabbatee
raka'aa lama salaatee sana booda
araarama Rabbiin kadhate Rabbiin
isaaf araaramu malee hin
hafu.”[٩٩٩]

٤٥ - دُعَاءُ طَرْدِ الشَّيْطَانِ وَوَسَاوِسِهِ

٤٦. ٤٧. Du'aa'ii shayxaanaafi woswaasii isaa ari'u

١٤١- (١) ((الاستِعاَذَةُ بِاللَّهِ مِنْهُ))[٩٩٩].

١٤٢- (٢) ((الاَذَانُ))[٩٩٩].

١٤٣- (٣) ((الاَنْكَارُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ))[٩٩٨].

٢٨٩- Isarraa Rabbitti

maganfachuu.[\[٩٩٨\]](#)

٢٩٠- Azaana godhuu.[\[٩٩٩\]](#)

٢٩١- Zikriiwan gochuufi Qur'aana
qara'uu.[\[٩٩١\]](#)

٤ - الدُّعَاءُ حِينَمَا يَقْعُ مَا لَا يَرْضَاهُ أَوْ غُلْبَ
عَلَى أَمْرِهِ

٤٩. ٨٩. Du'aa'ii namni wanti
inni hin feene itti argame godhu

٤ - ((قَدْرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ))[\(\[٩٩٧\]\)](#).

٢٩٢- [Kun] murtii Rabbiiti. Waan
fedhe hojjata.”[\[٩٩٨\]](#)

٤ - تَهْنِئَةُ الْمَوْلُودِ لَهُ وَجَوَابُهُ

٤٥. ٨٩. Waan nama daa'imni dhalateef ittiin eebbisaniifi deebii isaa

٤٥ - ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ،
وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشْدَهُ، وَرُزِقْتَ
بِرَّهُ)) ([٩٨٠]). **وَيَرْدُ عَلَيْهِ الْمُهَنَّأُ فَيَقُولُ:**
((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَّاكَ اللَّهُ خَيْرًا،
وَرَزَّقَكَ اللَّهُ مِثْلَهُ، وَأَجْزَلَ ثَوَابَكَ)) ([٩٨١]).

٩٨٠- “Waan siif kenname keessa Rabbiin barakaa siif haa kaa'u. Isa siif kenne kan galateeffattu ta'i. Ga'eessuma irras haa ga'u. Toltuu isaas Rabbiin siif haa kenu.” Inni eebbifamu immoo ni jedha: “Rabbitin barakaa siif haa godhu. Barakaa sirras haa godhu. Mindaa toltaa siif haa godhu. Fakkaataa isaa

Rabbiin siifis haa kenu. Mindaa
kee haa guddisu.”[٩٨٩]

٤٨ - ما يُعَوِّذُ بِهِ الْأَوْلَادُ

٤٥. ٨٨. Waan ilmaan ittiin tiksan

٤٦ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَيْعَوْذُ الْحَسَنَ
وَالْحُسَيْنَ ((أَعِذُّكُمَا بِكُلِّ مَا تَأْتَمَّ مِنْ كُلِّ
شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ)).[٩٨٩]

- ٤٧ Nabiyyiin (saw) Hasaniifi
Huseeniin kan armaan gadiitiin tiksute: “jecha Rabbii guutuu ta’eenin shayxaanaafi summii ajjeeftu hunda irraa, ija (budaa) hamtuu deddeebitu irraa isin tiksa.”[٩٨٨]

٤٩ - الدُّعَاءُ لِلْمَرِيضِ فِي عِيَادَتِهِ

٨٠. .٥٥ Du'aa'ii yeroo dhukkubsataa gaafatan godhamuuf

١٤٧ - (١) ((لَا بِأَسَأَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ ([٩٨٨]).

١٤٨ - (٢) ((أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
أَنْ يَشْفِيَكَ ([٩٨٩]) (سبع مرات).

٦٨٩- Homaa miti; yoo Rabbiin
fedhe qulqulleessituudha.” [٩٨٩]

- ١٥٣ Rabbii guddaa abbaa arshii
guddaan si fayyisuu kadha.” (si'a
torba jedha) [٩٨٧]

٥٠ - فَضْلُ عِيَادَةِ المَرِيضِ

٤٩. ٥٦ Sadarkaa dhukkubsataa gaafachuu

١٤٩ - قَالَ النَّبِيُّ صَ: ((إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخاهُ الْمُسْلِمُ مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ عُذْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ)). ([٧٨٥])

- ١٥٤ Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: “namni tokko yeroo obboleessa isaa Muslimaa gaafate hanga taa’utti fuduraa jannataa funaannachuu keessa deemaa jira. Yeroo taa’e rahmanni isa haguugdi. Yoo ganama ta’eef hanga dhihutti maleykaan kumni torbaatamni rahmata isaaf kadhatti. Yoo galgala

ta'e immoo hanga ifutti maleykaan kumni torbaatamni rahmata isaaf kadhatti.”[\[٩٨٠\]](#)

٥ - دُعَاءُ المَرِيضِ الَّذِي يَئْسَ مِنْ حَيَاةِ

89. ٥٧ Du'aa'ii dhukkubsataa jirenyaa irraa abdii kutee

١٥٠- (١) ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحُقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى)).[\[٩٨١\]](#)

- ١٥٥ Yaa Rabbi naaf araarami; na mararfadhu. Hiriyoontii ol aanootti na dhaqqabsiisi.”[\[٩٨٩\]](#)

١٥١- (٢) ((جَعَلَ النَّبِيُّ صَ عِنْدَ مَوْتِهِ يُدْخِلُ يَدِيهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلنَّمُوتِ سَكَرَاتٍ)).[\[٩٨٧\]](#)

- ١٥٦ Nabiyyiin (saw) yeroo du'an harka isaanii bishaan keessa galchanii fuula isaanii ittiin haxaa'anii "dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru. Duuti dhugumatti machii qaba." [٩٨٤]

١٥٢ - (٣) ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)). [٩٨٨]

- ١٥٧ Dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru. Rabbiin guddates. Dhugaan gabbaramaan Rabbii tokkicha malee hin jiru. Dhugaan gabbaramaan Rabbii tokkicha hiriyaan hin qabne malee hin jiru. Dhugaan gabbaramaan Rabbiin

malee hin jiru. Mootummaan kan Isaati; faaruunis kan isaati. Dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru. Tooftaafi humni Rabbiin biraat malee hin jiru.”[\[٩٨٦\]](#)

٥٢ - تَأْقِينُ الْمُحْكَمَ تَضَرِّرٌ

٤٩. .٥٨ Nama duuti itti dhufe laqqansiisuu

١٥٣ - ((مَنْ كَانَ أَخْرُوكَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)).[\[٩٨٧\]](#)

- ١٥٨ Namni dhumti haasaa isaa “dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru” jechuu ta’e jannata gala.[\[٩٨٨\]](#)

٥٣ - دُعَاءُ مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ

٨٨. . ٥٩ Du'aa'ii nama rakkoon isa mudatee

٤ ١٥٤ - ((إِنَّا لِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجْرِنِي
فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا)). [٩٨٥].

٤ ١٥٩ Nuti kan Rabbiiti. Nuti gara Isaa deebi'oodhas. Yaa Rabbi rakkoo kiyya keessatti na mindeessi. Kan isa caalu bakka naaf buusi.” [٩٩٠]

٤ - الدُّعَاءُ عِنْدَ إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ

٨٨. . ٦٠ Du'aa'ii yeroo ija du'aa gadi qaban jedhamu

٤ ١٥٥ - ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ بِاسْمِهِ) وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ
فِي الْمَهْدِيَّينَ، وَاحْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ،
وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَاسْخُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَتُوَرِّ لَهُ
فِيهِ([٩٦]).

၁၇၀- Yaa Rabbi abaluuf araarami.
Sadarkaa isaa qajeeltota keessatti ol
kaasi. Booda isaatii warra hafan
keessatti bakka buusiif. Yaa Rabbii
aalamaa nuufi isaafis araarami.
Qabrii isaa keessa isaaf ballisi;
keessa isaa isaaf ibsi.”[၁၆၉]

٥٥ - الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

٨٦. ٦١ Du'aa'ii yeroo janaazaa irratti salaatanuu

١٥٦- (١) ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ،
وَاعْفُ عَنْهُ، وَأكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ
بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ
الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ

داره، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [وَعَذَابِ النَّارِ]. ([٩٦٩])

- ١٦١ Yaa Rabbi isaaf araarami. Isa mararfadhu. Nagaa isa godhi. Irra dabriif. Qubsuma isaa kabaji. Seensa isaa ballisiif. Bishaan, bishaan qabbanaafi cabbiin isa miici. Akka huuccuu adii xurii irraa qulqulleessitetti yakka irraa isa qulqulleessi. Mana mana isaa caalu, maatii maatii isaa caalaniifi niitii niitii isaa caaltu bakka buusiif. Jannata isa seensis. Adabbi qabriitiifi adabbi ibiddaa irraa isa tiksi.” [٩٦٨]

١٥٧ - (٢) ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَحِينَا وَمَيْتَنَا، وَشَاهِدِنَا
وَغَائِبِنَا، وَصَاغِرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا. اللَّهُمَّ
مَنْ أَخْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَخْيِه عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوْفَّيْتَهُ
مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ،
وَلَا تُضِلْنَا بَعْدَهُ)). ([٩٦٨])

- ١٦٢ Yaa Rabbi jiraataafi du'aa
keenyaaf, dhihoofi fagoo keenyaaf,
xiqqoofi guddaa keenyaaf, dhiiraafi
dhalaa keenyaaf araarami. Yaa
Rabbi nama nurraa jiraachifte
Islaama irratti jiraachisi. Nama
nurraa ajjeefte immoo iimaana irratti
ajjeesi. Yaa Rabbi mindaa isaa nu
hin hongeessin. Booda isaatiis nu
hin jallisin.” [٩٦٩]

١٥٨ - (٣) ((اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ،
وَحَبْلِ جِوارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ،

وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .([٩٦٥]).

٩٦١- Yaa Rabbi abalu ilma abaluu eegumsa keetiifi waadaa nageenya keetii keessa jira. Mokkkoroo qabriifi adabbii ibiddaa irraa isa tiksi. Ati abbaa waadaa guutuufi haqaati. Isaaf araarami. Isa mararfadhu. Ati simatu araaramaa mararfataadha.”[٩٦٤]

١٥٩- (٤) ((اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمْتَكَ احْتَاجَ إِلَيْ رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوزْ عَنْهُ)).([٩٦٤]).

- ١٦٤ Yaa Rabbi gabrichi keetiifi ilmi gabrittii keetii rahmata keetti

haajomeera. Ati adabbii isaa irraa dureessa. Yoo inni gaarii hojjataa ta'e gaarii isaa dabaliif. Yoo yakkamaa ta'e irra dabriif.”[\[٩٩٠\]](#)

٥٦ - الدُّعَاءُ لِلْفَرَطِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

٨٩. ٩٩. Du'aa'ii ilmoo du'eef godhamu salaata irratti salaatamu keessatti.

١٦٠- (١) ((اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ
الْقَبْرِ))[\[٩٩١\]](#).

وإن قال: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطاً وَذُخْرًا لِوَالدِّيَهِ،
وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ تَقْلُ بِهِ مَوَازِينُهُمَا، وَأَعْظِمْ
بِهِ أَجْوَرَهُمَا، وَالْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ
فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ،
وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ،

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا، وَأَفْرَاطِنَا، وَمَنْ سَبَقَنَا
بِالْإِيمَانِ)) فَحَسَنُ([٩٩٩]).

١٦١- (٢) ((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَسَلْفًا،
وَأَجْرًا)).([٩٩٩])

٠٩٨- Yaa Rabbi adabbii qabrii irraa
isa tixsi.”[٩٩٨]

Yoo “yaa Rabbi maatii isaatiif
dursaafi kuusaa, manguddoo
Rabbiin isaaf qeebalu taasisi. Yaa
Rabbi madaala isaanii ittiin ulfeessii
mindaa isaanii ittiin guddisiif.
Mu’uminoota gaariitti isa
dhaqqabsiisi. Wabii Ibraahiiim
keessa isa godhi. Rahmata keetiin
adabbii jahannamaa irraa isa tixsi.
Mana mana isaa caaluufi maatii

maatii isaa caalu bakka buusiif. Yaa Rabbi warra nu durseef araarami. Kan iimaanaan nu dura bu'aniifis" jedhe gaarii ta'a. [٩٩٨]

٩٩٩- Yaa Rabbi kan jannata keessatti dursee nu eeguufi mindaa nuuf taasisi." [٩٩٩]

٥٧ - دُعَاء التَّغْزِيَةِ

٤٢. ٦٦. Du'aa'ii taaziyyaa (gaddaa)

١٦٢ - ((إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ
شَيْءٍ عِنْدُهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى... فَلْتَصِرِّ
وَلْتَحْسِبْ)). ([٩٩٩]).

وَإِنْ قَالَ: ((أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ،
وَغَفَرَ لِمَيْتَكَ)) فَحَسَنُ ([٩٩٩]).

၁၇၅- Wanti Rabbiin fudhate kan Isaati. Kan Inni kenes kan Isaati. Wanti hunduu Isa biratti baallama beekamaadhaani. ... haa obsitu mindaa Rabbirratti haa herreggattu.”[\[၁၇၅\]](#)

Yoo “Rabbit mindaa kee haa guddisu. Obsa kee siif haa gaaromsu. Du’aa keetiif haa araaramu” jedhe gaariidha.[\[၁၇၀\]](#)

٥٨ - الدُّعَاءُ عِنْ دُخَالِ الْمَيْتِ الْقَبْرِ

၈၅. ၆၈. Du’aa’ii yeroo du’aa qabrii galchan godhamu

١٦٣ - ((بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنْنَةِ رَسُولٍ
اللَّهِ)).[\(\[၁၇၁\]\)](#)

٢٩٧- Maqaa Rabbiitiin; karaa
Ergamaa Rabbii (saw) irratti.”[\[٣٧٩\]](#)

٥٩ - الدُّعَاءُ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ

٩٠. ٩٨. Du'aa'ii erga du'aa
awwaalanii godhamu

١٦٤ - ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ شَتِّهِ))[\(\[٣٧٧\]\)](#).

٢٩٨- Yaa Rabbi araaramiif. Yaa
Rabbi gadi isaa dhaabi.”[\[٣٧٨\]](#)

٦٠ - دُعَاءُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

٩٢. ٩٩. Du'aa'ii yeroo qabrii
ziyaaranii

١٦٥ - ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حَقُونَ،

[وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ] أَسْأَلُ
اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ([٩٢٨]).

٦٥٠- Yaa warra ganda
mu'umintootaafi muslimoota irraa
taatan nagaan isin irra haa jiraatu.
Nuti yoo Rabbiin fedhe isinitti
dhaqqaboodha. Rabbiin nurraa
warra durseefis ta'ee kan boodaatiif
haa araaramu. Nuufi isiniif
nageenyan kadha.” [٩٢٩]

٦١ - دُعَاء الرَّبِّ ح

٦٩. ٦٩. Du'aa'ii yeroo qilleensaa

١٦٦- (١) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهَا)) ([٩٢٩]).

٢٩٢- Yaa Rabbi ani toltaa isheen si kadha. Hamtaa ishee irraa sittin maganfadha.”[\[٩٣\]](#)

١٦٧- (٢) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ)).[\[٩٤\]](#)

٢٩٩- Yaa Rabbi ani toltaa ishee, toltaa ishee keessa jiruufi toltaa isheen ittiin ergamten si kadha. Hamtaa ishee, hamtaa ishee keessa jiruufi hamtaa isheen ittiin ergamte irraa sittin maganfadha.”[\[٩٥\]](#)

٦٢ - دُعَاء الرَّغْدِ

۹۹. ۹۷. Du'aa'ii kakawwee
(mandiisuu)

١٦٨ - ((سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّاغِدُ بِحَمْدِهِ
وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ)) [٩٥٩].

١٩٩- Rabbiin inni kakawween
faaruu isaa waliin, maleykaanis
sodaa isaatiin isa qulqulleessan
qulqulla'eera.” [٩٥٩]

٦٣ - مِنْ أَدْعِيَةِ الْاسْتِسْقَاءِ

٩٨. ٩٩. Du'aa'ii istisqaa'ii (rooba barbaachaa)

١٦٩ - (١) ((اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا،
نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ، عَاجِلًا غَيْرَ آجِل)) [٩٥٩].

٢٠٠- Yaa Rabbi bokkaa roobu,
gaarii, waa biqilchu, kan fayyadu
hin miine, ariifataa kan hin turre nu
obaasi.” [٩٥٨]

١٧٠ - (٢) ((اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ
أَغِثْنَا)). ([٩٥٨]).

١٩٨ - Yaa Rabbi nuuf roobsi. Yaa
Rabbi nuuf roobsi. Yaa Rabbi nuuf
roobsi.” [٩٥٩]

١٧١ - (٣) ((اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ
رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ)). ([٩٥٩]).

١٩٩ - Yaa Rabbi gabroottan keetiifi
bineensota obaasi. Rahmata kee
ballisi. Biyya kee du'e
fayyisi.” [٩٥٧]

٦٤ - الدُّعَاءُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ

٩٨. ٩٠. Du'aa'ii yeroo roobni
roobu godhamu

١٧٢ - ((اللَّهُمَّ صَبِّرْنَا نَافِعًا)). [٩٤٥]

٠٩٩- Yaa Rabbi rooba fayyadu
[taasisi].”[\[٨٠٠\]](#)

٦٥ - الذِّكْرُ بَعْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ

٦٦. ٧١ Zikrii booda roobni
roobee jedhamu

١٧٣ - ((مُطَرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ)). [٨٠٢]

٠٩٧- Tola Rabbiitiifi rahmata
isaatiin nuuf roobe.”[\[٨٠٩\]](#)

٦٦ - مِنْ أَدْعِيَةِ الْاسْتِصْنَاحِ

٦٦. ٦٦. Du'aa'ii rooba
sirreessuuf godhamu

١٧٤ - ((اللَّهُمَّ حَوْالِنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى
الْأَكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ
الشَّجَرِ)). [٨٠٩]

٢٩٤- Yaa Rabbi naannoo keenyatti
roobsi malee narratti hin roobsin.
Yaa Rabbi sibboofi gaara, garaa
laggeeniifi hundee biqilootaa irratti
godhi.” [٨٠٨]

٦٧ - دُعَاءُ رُؤيَةِ الْهِلَالِ

٦٧. ٩٩. Du'aa'ii yeroo baatii arganii

١٧٥ - ((الله أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ
وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ
رَبَّنَا وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ)). [٨٠٨]

٢٧٠- Rabbiin hundarra guddate.
Yaa Rabbi nageenyaafi iimaanaan,
nageenyaafi Islaamaan, waan ati
jaalattuufi feetuuf waffaqamuu
waliin narratti baasi. Rabbiin
keenyaafi Rabbiin kee
Allaahdha.”[٤٠٦]

٦٨ - الدُّعَاءُ عِنْدَ إِفْطَارِ الصَّائِمِ

٩٥. ٩٤. Du'aa'ii yeroo fixrii godhamu

١٧٦- (١) ((ذَهَبَ الظَّمَآنُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ
الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)).[٤٠٦]

٢٧١- Dheebuun deeme. Hiddi
dhiigaa jiidheera. Yoo Rabbiin fedhe
mindaanis mirkanaa'eera.”[٤٠٧]

١٧٧- (٢) ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرْ لِي)). ([٨٠٤]).

١٧٩- Yaa Allaah ani rahmata kee
kan waan hunda wal gaheenin naaf
araaramuu si kadha.” [\[٨٠\]](#)

٦٩ - الدُّعَاءُ قَبْلَ الطَّعَامِ

٩٠. ٩٨. Du'aa'ii nyaata duraa

١٧٨- (١) ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَقُلْ بِسْمِ
اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ
وَآخِرِهِ)). ([٨٠٦]).

١٧٩- Tokkoon keessan yeroo
nyaachuuf ka'e "maqaa Rabbiitiin"
haa jedhu. Yoo jalqaba irratti dagate
"jalqaba isaatiifi dhuma isaas maqaa
Rabbiitiin [eegale]" haa jedhu.

١٧٩- (٢) ((مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ الطَّعَامَ فَلَيَقُولْ: الْلَّهُمَّ
بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعَمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ
لَبَنًا فَلَيَقُولْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزَدْنَا
مِنْهُ)). [٨٦٩]

٢٤٨- Namni Rabbiin nyaata wahii
isa nyaachise “yaa Rabbi barakaa isa
keessa nuuf godhi. Kan isa caalu nu
nyaachisi” haa jedhu. Namni
Rabbitiin aannan isa obaase “yaa
Rabbiti barakaa isa keessa nuuf kaa’i.
Isarraa nuuf dabalis” haa
jedhu. [٨٦٩]

٧٠ - الدُّعَاءُ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ

٩٢. ٩٣. **Du’aa’ii yeroo nyaata
xumuranii**

١٨٠- (١) ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا،
وَرَزَقَنِيهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا
فُؤْةً)). ([٤٢٤]).

١٧٨- Faaruun kan Rabbii kana na nyaachiseeti. Tooftaafi humna na biraan hin ta'iniin isa na soore.” [٤٢٤]

١٨١- (٢) ((الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا
فِيهِ، غَيْرَ [مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ
رَبَّنَا]). ([٤٢٥]).

١٧٩- Faaruun kan Rabbiiti. Faaruu baay'ee gaarii barakaa qabu kan irraa of hin geenye, isa hin dhiifneefi irraa hin duroomen [si faarsa] yaa Rabbii keenya.” [٤٢٦]

٩٩. ٩٩. Du'aa'i keessummaan abbaa nyaataatiif godhu

١٨٢ - ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ
وَارْحَمْهُمْ)). ([٤٢])

٢٧٩- Yaa Rabbi waan isaan soorte
keessa barakaa kaa'iif. Isaaniif
araaramii isaan mararfadhu.” [٤٢]

٧٢ - التَّعْرِيضُ بِالدُّعَاءِ لِطَلَبِ الطَّعَامِ أَوِ
الشَّرَابِ

٩٩. ٩٦. Du'aa'i nama isa obaaseef godhamu

١٨٣ - ((اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمْنِي، وَاسْقِ مَنْ
سَقَانِي)). ([٤٩٠])

٦٢٢- Yaa Rabbi nama na nyaachise nyaachisi. Nama na obaases obaasi.”[٤٩٤]

٧٣ - الدُّعَاءُ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ

٩٤. ٩٥. Du’aa’ii maatii biratti faxiraniif godhamu

١٨٤ - ((أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ)).[٤٩٩]

٦٢٣- Soomtotatu isin biratti fure. Gaggaariitu nyaata keessan nyaate. Maleykaanis du’aa’ii isiniif kadhatti.”[٤٩١]

٧٤ - دُعَاءُ الصَّائِمِ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَلَمْ يُفْطِرْ

٩٨. ٢٠. Du'aa'ii namni ogga nyaanni itti dhufee furuu dhiise godhu

١٨٥ - ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا
فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ))([٤٩٤])
وَمَعْنَى فَلْيُصَلِّ أَيْ فَلْيَذْعُ.

٢٤٠- Tokkoon keessan yeroo
affeerame haa owwaatu. Yoo kan
soomu ta'eef du'aa'ii haa godhu.
Yoo furee jiraateef haa
nyaatu.”[٤٩٤]

٧٥ - مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا سَابَهُ أَحَدٌ

٩٩. ٨١ Waan namni soomu yeroo arrabsame jedhu

١٨٦ - ((إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ))([٤٩٦]).

- ۱۹۱ Ani nan soomaara; ani nan soomaara.”[٤٩٩]

٧٦ - الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَاةِ بَاكُورَةِ الثَّمَرِ

٩٩. ٨٢ Du'aa'ii yeroo fuduraa haaraa arganii

١٨٧ - ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِنَّا)).([٤٩٨])

٤٥٩- Yaa Rabbi fuduraa keenya keessa barakaa nuuf kaa'i. Yaa Rabbi Madiinaa keenya keessas barakaa nuuf kaa'i. Saa'ii keenya keessas barakaa nuuf kaa'i. Konyee keenya keessas barakaa nuuf kaa'i.”[٤٩٩]

٧٧ – دُعَاءُ الْعُطَاسِ

٩٢. ٨٣ Du'aa'iil axxiffoo

١٨٨ - (١) ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخْوَهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُمْ)). [٤٩٠]

- ١٩٣ Tokkoon keessan yeroo
 axxiffate “faaruun kan Rabbiiti” haa jedhu. Obboleessi yookiin hiriyaan isaa immoo “Rabbiin si haa mararfatu” haa jedhuun. Ogga inni “Rabbiin si haa mararfatu” jedhe immoo “Rabbiin sin haa qajeelchu; haala keessanis haa tolchu” haa jedhuun. [٤٩١]

٧٨ – مَا يُقَالُ لِلْكَافِرِ إِذَا عَطَسَ فَحَمِّدَ اللَّهَ

٩٥. .٨٤ Waan yeroo kaafirri axxiffatee Rabbiin faarse jedhamuun

١٨٩ - (٢) ((يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ
بَالْكُمْ)). [٤٧٦]

- ١٩٤ "Rabbiin sin haa
qajeeelchu." [٤٧٧]

٧٩ - الدُّعَاءُ لِلْمُتَزَوِّجِ

٩٦. .٨٥ Du'aa'ii nama fuudheef godhamu

١٩٠ - ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ
بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ)). [٤٧٨]

- ١٩٥ Rabbiin barakaa siif haa
godhu. Barakaa srrattis haa godhu.

Toltuudhaan jidduu keessan walitti
haa qabu.”**[٤٧٨]**

٨٠ - دُعَاءُ الْمُتَزَوِّجِ وَشِرَاءِ الدَّابَّةِ

٨٦ Du'aa'ii nama fuudheefi beellada bitee

١٩١ - إِذَا تَزَوَّجَ أَخْدُوكُمْ امْرَأَةً، أَوْ إِذَا اشْتَرَى
خَادِمًا فَلْيَقُلْ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا
جَبَّلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا
جَبَّلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ
سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ)).**([٤٧٥])**

- ١٩٦ Tokkoon keessan yeroo
dubartii fuudhe yookiin tajaajilaa
bite kana haa jedhu: “yaa Rabbi ani
toltuu isheetiifi toltaa waan ati irratti
ishee uumteen si kadha. Hamtuu
isheetiifi hamtuu waan ati irratti

ishee uumtee irraa sittin maganfadha.” Yeroo gaala bite gooba isaa qabee fakkii kanaa haa jedhu. [٤٩٦]

٨١ - الدُّعَاءُ قَبْلَ إِتْبَانِ الزَّرْوَجَةِ

٢٩. .٨٧Du'aa'i haadha manaatiin wal qunnamuun dura godhamu

١٩٢ - ((بِسْمِ اللَّهِ، الَّهُمَّ جَنِبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِبْ
الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا)). [٤٩٧].

- ١٩٧ Maqaa Rabbiitiin; yaa Rabbi shayxaana irraa nu fageessi. Waan nuuf arjoomte irraas shayxaana fageessi.” [٤٩٨]

٨٢ - دُعَاءُ الغَضَّابِ

٢٩. .٨٨ Du'aa'ii yeroo dallansuu

١٩٣ - ((أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)). [٨٨٠]

٢٥٢- Shayxaana abaaramaa irraa Rabbittin maganfadha.” [٨٨١]

٨٣ - دُعَاءٌ مَنْ رَأَى مُبْتَلًى

٢٨. .٨٩ Du'aa'ii namni nama mokkoramaa arge godhu

١٩٤ - ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَنِي مِمَّا ابْتَلَكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا)). [٨٨٩]

١٩٩- Faaruun kan Rabbii waan ittiin si mokkore irraa nagaa na godheefi

waan uume baay'ee irra na
caalchiseeti.”[٨٨٩]

٨٤ – مَا يُقَالُ فِي الْمَجْلِسِ

١٩٥ . ٩٠ . ٢٨ . Waan taa'icha keessatti jedhamu

١٩٥ - ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ
يُعَدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةً مَرَّةً
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُولَ: ((رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَثُبْ عَلَيَّ،
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الْغَفُورُ))([٨٨٨]).))

- ٢٠٠ Ibn Umar irraa odeeffamee (ra) ni jedhe: Ergamaa Rabbiitiif (saw) taa'icha tokko keessatti si'a dhibba tokko “yaa Rabbi naaf araarami; tawbaa kiyya qeebali. Ati simatu akkaan tawbaa qeebalaa

araaramaadha waan taateef” jechuu
lakkoofna ture.[٤٤٨]

٨٥ - كَفَارَةُ الْمَجِلسِ

١٩٦. ٩١ Waan badii taa'ichaa harcaasu

١٩٦ - ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ)).[٤٤٩]

- ٢٠١ Yaa Rabbi faaruu keetii
waliinin si qulqulleessa. Dhugaan
gabbaramaan si malee hin jiruu
ragaan baha. Araaraman si kadha.
Gara keettin deebi'as.”[٤٤٩]

٨٦ - الدُّعَاءُ لِمَنْ قَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ

١٩٦ . ٩٢ Du'aa'ii nama 'Rabbiin
siif haa araaramu' jedheef
godhamu

١٩٧ - ((وَلَكَ)) ([٨٨٧]) .

909- “Siifis haa araaramu.” [٨٨٨]

٨٧ - الدُّعَاءُ لِمَنْ صَنَعَ إِلَيْكَ مَعْرُوفًا

١٩٨ . ٩٣ Du'aa'ii nama toltaa sii
ooleef gootu

١٩٨ - ((جَزَّاكَ اللَّهُ خَيْرًا)) ([٨٨٠]) .

- ٢٠٣ Rabbiin toltaa si haa
mindeessu.” [٨٨٩]

٨٨ - مَا يَعْصِمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الدَّجَّالِ

٢٩. ٩٤ Waan Rabbiin ittiin Dajjaal irraa nama tiku

١٩٩ - ((مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِّنْ أَوَّلِ سُورَةِ
الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ)) ([٨٩]) ، وَالْاسْتِعَاذَةُ
بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَتِهِ عَقِبَ التَّشَهِيدِ الْأَخِيرِ مِنْ كُلِّ
صَلَاةٍ ([٨٩]).

908- Namni jalqaba suuraa Kahf
irraa aayata kudhan haffaze Dajjaal
irraa tikfama.” [٨٨]

Akkuma kana salaata hunda
keessatti tashahhuda dhumaa
keessatti fitnaa isaa irraa
maganfachuudha.

٨٩ - الدُّعَاءُ لِمَنْ قَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ

٤٥. . ٩٥ Waan nama ‘Rabbiif jechan si jaaladha’ jedheen jedhamu

٢٠٠ - ((أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ)) ([٨٨٨]).

- ٢٠٥ Inni ati isaaf jecha na jaalatte
si haa jaalatu.” [٨٨٩]

٩٠ - الدُّعَاءُ لِمَنْ عَرَضَ عَلَيْكَ مَالُهُ

٤٦. . ٩٦ Du’aa’ii nama qabeenya isaa sii kenneef gootu

٢٠١ - ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ
وَمَالِكَ)) ([٨٩٠]).

- ٢٠٦ Rabbiin maatii keetiifi
qabeenya kee keessa barakaa siif
haa godhu.” [٨٩١]

٩١ - الدُّعَاءُ لِمَنْ أَفْرَضَ عِنْدَ الْقَضَاءِ

٥٩. ٩٧ Du'aa'ii yeroo hidaan
kaffalamu nama kaffaluuf
godhamu

٢٠٢ - ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَا لَكَ، إِنَّمَا
جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ)) [٤٨]

- ٢٠٧ Rabbiin maatii keetiifi
qabeenya kee keessa barakaa siif
haa kaa'u. Mindaan hidaa galataafi
kafaltiidha.” [٤٩٠]

٩٢ - دُعَاءُ الْخَوْفِ مِنَ الشَّرِّ

٥٩. ٩٨ Du'aa'ii nama shirkii
irraa sodaatee

٢٠٣ - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا
أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ)). [٨٦٢]

٢٠٤ Yaa Rabbi ani osoon beekuu
sitti qindeessuu irraa sittin
maganfadha. Waan hin beekneef
immoo araaraman si kadha.” [٨٦٩]

٩٣ - الدُّعَاءُ لِمَنْ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ

٥٨. ٩٩ Du'aa'ii nama 'Rabbiin barakaa si keessa haa godhu' jedheen godhamu

٤ - ((وَفِيهِ بَارَكَ اللَّهُ)). [٨٦٧]

٢٠٥ Si keessas barakaan haa
godhamu.” [٨٦٨]

٩٤ - دُعَاءُ كَرَاهِيَةِ الطِّيرَةِ

٥٨. ١٠٠ Du'aa'ii namni hixaa fokkataa sodaate godhu

٢٠٥ - ((اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا
خَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)). ([٤٦٨])

- ٢١٠ Yaa Rabbi hixaan hixaa kee malee hin jiru. Toltuunis toltaan kee malee hin jiru. Dhugaan gabbaramaan si malee hin jiru.” [٤٦٩]

٩٥ - دُعَاءُ الرُّكُوبِ

٥٩. ١٠١ Du'aa'ii nama geejjiba yaabbatee

٢٠٦ - ((بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ)) {سُبْحَانَ الَّذِي
سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرَنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا
لَمْ نَقْلِبُونَ} ، ((الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ
لَمْ نَقْلِبُونَ}) ،

أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي
 ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
 أَنْتَ). ([٨٦٩]).

- ۲۱۱ Maqaa Rabbiitiin. Faaruun kan Rabbiiti. “Inni kana nuuf laaffise qulqullaa’e; nuti isa danda’oo hin turre. Nuti gara Gooftaa keenyaa deebi’oodha.” [٨٦٩] Faaruun kan Rabbiiti. Faaruun kan Rabbiiti. Faaruun kan Rabbiiti. Rabbiin hundarra guddaadha. Rabbiin hundarra guddaadha. Rabbiin hundarra guddaadha. Yaa Rabbi ati qulqulloofte. Yaa Rabbi ani lubbuu kiyya miidheeraa naaf araarami. Dubbiin, si malee kan yakka araaramu hin jiru.” [٨٦٩]

٩٦ - دُعَاءُ السَّفَرِ

٥٩. ١٠٢ Du'aa'i imalaa

٢٠٧ - اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،
أَكْبَرُ،

{سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ *
وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِّبُونَ}

((اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي
سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالثَّقَوْيِ،
وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوْنِ
عَلَيْنَا سَفَرُنَا هَذَا وَاطْمُ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ
الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ،
اللَّهُمَّ ائِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ،
وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ
وَالْأَهْلِ)، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ:
((آيُّونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا
حَامِدُونَ)) ([٨٩٠]).

- ۲۱۲ Rabbiin hundarra guddaadha.
Rabbitiin hundarra guddaadha.
Rabbitiin hundarra guddaadha. “Inni
kana nuuf laaffise qulqullaa’e; nuti
isa danda’oo hin turre. Nuti gara
Gooftaa keenyaa deebi’oodha.” [۸۹۰]

Yaa Rabbi nuti imala keenya kana
keessatti tolkuufi tika, hojii irraa
waan ati jaallattun si kadha. Yaa
Rabbiti imala keenya kana nuuf
laaffisi. Fageenya isaa nurraa mari.
Yaa Rabbiti imala keessatti situ
shariika; maatii keessatti situ bakka
bu’aadha. Yaa Rabbiti cinqii imala,
ilaalcha gaddisiisaafi deebii hamaa
qabeenyaafi maatii keessatti arguu
irraa sittin maganfadha.” Yeroo
deebi’es kana jedhee kan armaan

gadii itti ida'a: "nuti deebi'oodha;
yoo Rabbiin fedhe toobbataa,
Rabbitiin gabbaraa, Rabbii keenya
faarsaadha." [٤٩٩]

٩٧ - دُعَاءُ دُخُولِ الْقَرِيَّةِ أَوِ الْبَلْدَةِ

٤٢. ١٠٣ Du'aa'ii yeroo magaalaa yookiin biyya seenanii

٢٠٨ - ((اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلَنَّ،
وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلَنَّ، وَرَبَّ
الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلَنَّ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَنَّ،
أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا
فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا
فِيهَا)). ([٤٩١])

٩٥٩- Yaa Allaah gooftaa samii
torbaniifi waan isaan gaaddisiisanii,
gooftaa dachii torbaniifi waan isaan

baatanii, gooftaa shayxaanaafi waan isaan jallisanii, gooftaa qilleensaafi waan inni faffacaasee! Toltuu magaalaa kanaa, toltaa jiraattota isheefi toltaa ishee keessa jirun si kadha. Hamtuu ishee, hamtuu jiraattota isheefi hamtuu ishee keessa jiru irraa sittin maganfadha.”[٤٩٨]

٩٨ – دُعَاءُ دُخُولِ السُّوقِ

٤٩٨. Du'aa'ii yeroo gabaa (magaalaa) seenanii

٢٠٩ - ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُخْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)).[٤٩٨]

٩٢٨- Dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru. Inni tokkicha hiriyaan hin qabneedha. Mootummaan kan isaati. Faaruunis kan Isaati. Inni ni jiraachisa ni ajjeesa. Inni jiraataa hin duuneedha. Toltuun harka isaa jira. Inni waan hunda irratti danda'aadha.”[٤٧٦]

٩٩ - الدُّعَاءُ إِذَا تَعْسَ المَرْكُوبُ

٢٠٠. ٢٠٨. Du'aa'ii
nama geejjibni duraa dadhabee.

٢١٠ - ((بِسْمِ اللَّهِ))[٤٧٧].

٩٢٨- Maqaa Rabbiitiin.”[٤٧٨]

١٠٠ - دُعَاءُ الْمُسَافِرِ لِلْمُقِيمِ

٩٠٨.

٩٠٩. Du'aa'ii

musaafirri nama biyyaatiif godhu

٢١١ - ((أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا تَضِيغُ
وَدَائِعُهُ([٤٧٥]).

٩٠٩- Rabbii isa amaanaan biratti hin
bannettin amaanaa isin kenna.”[\[٤٧٥\]](#)

١٠١ - دُعَاءُ الْمُقِيمِ لِلْمُسَافِرِ

٩٠٩.

٩٠٩. Du'aa'ii

namni biyyaa musaafiraaf godhu

٢١٢ - (١) ((أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ
عَمَلِكِ([٤٧٦]).

٩٠٩- Amantii kee, amaanaa keetiifi
dhuma hojii keetii Rabbittin
amaanaa kenna.”[\[٤٧٩\]](#)

٢١٣ - (٢) ((زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَىٰ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ،
وَيَسِّرْ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ)). [٨٧]

٩٦٢ - Rabbiin taqwaa galaa siif haa
godhu. Badii kee siif haa araaramu.
Bakka jirtu hundatti toltaa siif haa
laaffisu.” [٨٧]

١٠٢ - التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ فِي سَيْرِ السَّفَرِ

٩٦١. ٩٦٢. Adeemsa
imalaa keessatti takbiiraafi
tasbiiha gochuu

٢١٤ - قَالَ جَابِرٌ t: ((كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبَرْنَا، وَإِذَا
نَزَلْنَا سَبَّحْنَا)). [٨٧]

٩٦٣ - Jaabir (ra) ni jedhe: “yeroo
gaaratti ol baane takbiiraa jenna.

Yeroo buune immoo tasbiiha
goona.”[٤٧]

١٠٣ - دُعَاءُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَسْحَرَ

٢٠٨. ٢٠٩. Du'aa'ii
musaafirri yeroo assuhrii godhu

٢١٥ - ((سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَحُسْنٍ بَلَائِهِ
عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبَنَا، وَأَفْضِلُ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللَّهِ
مِنَ النَّارِ)).[٤٧]

990- Faaruu nuti Rabbiin
faarsinuufi ni’imaa isaa gaarii nurra
jiru amanuu dhagahaan dhagahee
[ragaa baha]. Yaa Rabbii keenya
nuun saahiboomi. Tola kee narratti
dhangalaasi. Ibidda irraa Rabbittin
maganfadha.”[٤٨]

٤٠ - الدُّعَاءُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا فِي سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ

٢٠٨.

٢٠٩. Du'aa'ii

yroo imala yookiin kan biroo
keessatti qubatte gootu

٢١٦ - ((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ)). [٤٧]

٩٩٠- Hamtuu Rabbiin uume irraa
jecha Rabbii guutuuttin
maganfadha.” [٤٥٠]

١٠٥ - ذِكْرُ الرُّجُوعِ مِنَ السَّفَرِ

٢٠٩.

٢٠٩. Zikrii yeroo

imalaa deebi'anuu

٢١٧ - ((يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ
يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ،

وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيُّونَ،
 تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ
 وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ
 وَحْدَهُ)([٤٥٩]).

999- Gaara hundarratti takbiiraa
 sadii jedha. Ergasii ni jedha:
 “Dhugaan gabbaramaan Rabbiin
 malee hin jiru. Inni tokkicha hiriyaan
 hin qabneedha. Mootummaan kan
 isaati. Faaruunis kan Isaati. Inni
 waan hunda irratti danda’aadha.
 Nuti deebi’oodha; yoo Rabbiin
 fedhe toobbataa, Rabbiin gabbaraa,
 Rabbii keenya faarsaadha. Rabbiin
 waadaa isaa dhugoomseera.
 Gabricha isaa tumseera. Kophaa isaa
 garee diinaa bittinneesseera.” [٤٥٩]

١٠٦ - مَا يَقُولُ مَنْ أَتَاهُ أَمْرًا يَسِّرُهُ أَوْ يَكْرَهُهُ

٤٠٩.

٤٠٩. Waan

namni dhimmi isa gammachiisu
yookiin jibbisiisu mudate jedhu

٢١٨ - ((كَانَ النَّبِيُّ صَ إِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَسِّرُهُ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتَمَّ الصَّالِحَاتُ)) وَإِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَكْرَهُهُ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ)). [٤٥٧]

٩٩٩- Nabiyyiin (saw) yeroo
dhimmi isaan gammachiisu isaan
mudate ni jedhu: “faaruun kan
Rabbi ni’imaa isaatiin wanti
gaggaariin guuttuuti.” Yeroo wanti
isaan jibban isaan mudate immoo
“haala hundarrattuu faaruun kan
Rabbiiti” jedhu. [٤٥٨]

١٠٧ - فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

٩٥٢. Sadarkaa
Nabiyyii (saw) irratti salawaata
buusuun qabu

٢١٩- (١) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ
صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا)). [٤٥٨]

99٦- Nama si'a tokko salawaata
narratti buuse Rabbiin isheedhaan
si'a kudhan rahmata isarratti
buusa.” [٤٥٩]

٢٢٠- (٢) وَقَالَ ﷺ: ((لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا
وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ
كُنْتُمْ)). [٤٥٩]

99٧- Nabiyyiin (saw) ni jedhan:
“awwaala kiyya iida hin taasisinaa.

Rahmata narratti buusaa.
Salawaanni keessan bakkuma isin
jirtan irraa natti dhaqqaba. “[\[801\]](#)

٢٢١- (٣) وَقَالَ ﷺ: ((الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ
فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ)).[\[802\]](#)

999- Doyna namaa jechuun nama
ani biratti dubbatamee salawaata
narratti hin buufneedha.”[\[800\]](#)

٢٢٢- (٤) وَقَالَ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي
الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ)).[\[801\]](#)

- ٢٢٧ Nabiyyiin (saw) ni jedhan:
“Rabbiin maleykota dachii keessa
deeman kan salaamtaa ummata
kiyyaa natti dhaqqabsiisan
qaba.”[\[809\]](#)

٢٢٣ - (٥) ((وَقَالَ رَبُّكُمْ: ((مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ
إِلَّا أَرَدَ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرْدَ عَلَيْهِ
السَّلَامَ)). ([٨٠٩]).

- ٢٢٨ Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: “namni tokko salaamtaa naan jedhee yoo Rabbiin ruuhii kiyya natti deebisee salaamtaa isatti deebise malee hin hafu.” [٨٠٨]

١٠٨ - إِفْشَاءُ السَّلَامِ

٤٠٩. . ١١٤ Salaamtaa babal'isuu

٢٢٤ - (١) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَبُّكُمْ: ((لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَدْلُكُمْ
عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَّتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ
بَيْنَكُمْ)). ([٨٠٨]).

- ۲۲۹ Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: “hangaa amantanutti jannata hin seentanu. Hangaa wal jaalattanitti hin amantanu. Waan isin hojjattanii wal jaalattan isin akeekuu? Salaamtaa jidduu keessanitti babal’isaa.” **[۸۰۹]**

٢٢٥ - ((ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعُهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ : الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ ، وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ)) [۸۰۹].

- ۲۳۰ “Namni waa sadii walitti qabate dhugumatti iimaana walitti qabateera: lubbuu kee irratti haqa hojjachuu, aalamaaf salaamtaa baay’isuufi hiyyummaa irraa kennachuudha.” **[۸۰ۮ]**

٢٢٦ - (٣) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا قَالَ: ((تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)). [٨٠٤]

٢٣١ Abdullaah bin Umar irraa
odeeffamee (ra) ni jedhe: namichi
tokko Islaama kamtu caala jedhee
Nabiyyii (saw) gaafate. Nabiyyiin
(saw) ni jedhan: “nyaata nyaachifta.
Nama beektuufi hin beekne irratti
salaamtaa qaraata.” [٨٢٠]

١٠٩ - كَيْفَ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى الْكَافِرِ إِذَا سَلَّمَ

٦٦٠. Yeroo.
kaafirri salaamtaa jedhe akkaataa
ittiin deebisan

٢٢٧ - ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوا : وَعَلَيْكُمْ)) ([٨٠٦]).

- ٢٣٢ Yeroo warreen kitaabaa salaamtaa isiniin jedhan “isin irras haa jiraatu” jedhaa. [٨٠٩]

١١٠ - الدُّعَاءُ عِنْدَ سَمَاعِ صِيَاحِ الدِّيْكِ وَنَهِيقِ الْحِمَارِ

٤٤٩. . ١١٦ Du'aa'ii
yeroo lukkuun iyyeefi harreen
halaake godhamu

٢٢٨ - ((إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةَ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا)) ([٨٠٧]).

- ۲۳۳ Yeroo iyya lukkuu dhageessan tola Rabbii isa kadhaa. Isheen maleykaa argite waan taateef. Yeroo halaaka harree dhageessan shayxaana irraa Rabbitti maganfadhaa. Inni shayxaana arge waan ta'eef.

١١١ - الدُّعَاءُ عِنْدَ سَمَاعِ نُبَاحِ الْكِلَابِ بِاللَّيْلِ

٤٩٩. . ١١٧ Du'aa'ii
halkan yeroo sareen dutte
godhamu

٢٢٩ - ((إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيَقَ الْحَمِيرِ
بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْهُنَّ؛ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا
تَرَوْنَ)). ([٨٦٨])

٩٩٨- Yeroo halkan dutaa sareefi halaaka harree dhageessan isaan

irraa Rabbitti maganfadhaa. Isaan waan isin hin argine argu.”[٤٦٨]

١١٢ - الدُّعَاءُ لِمَنْ سَبَبَتْهُ

٤٤٩. . ١١٨ **Du'aa'ii**
nama arrabsiteef gootu

٢٣٠ - قَالَ النَّبِيُّ صَ: ((اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (٤٦٩).

- ٢٣٥ Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: “yaa Rabbi mu’umina ani arrabse hundaawuu arraba sana Guyyaa Qiyaamaa si biratti dhiheenya taasisiif.”[٤٦٩]

١١٣ - مَا يَقُولُ الْمُسْلِمُ إِذَا مَدَحَ الْمُسْلِمَ

٤٤٨.

. ١١٩ Waan

Muslimni yeroo Muslima faarse jedhu

٢٣١ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلَيَقُولْ: أَحَسِبُ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أَزْكَى عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، أَحَسِبُهُ - إِنْ كَانَ يَعْلَمْ ذَاكَ - كَذَا وَكَذَا)) ([٨٠٢]).

- ٢٣٦ Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: “tokkoon keessan yeroo hiriyaan isaa faarsuun dirqama itti ta’e ‘abalu akkanaan yaada; garuu Rabbitu isa qormaata. Nama tokkollee Rabbirratti hin qulqulleessu. Yoo waan irraa beeku ta’eeef akkana akkana ta’aan yaada’ haa jedhu.” [٨٠٣]

١١٤ - مَا يَقُولُ الْمُسْلِمُ إِذَا زُكِّيَ

٦٦٨. ١٢٠ **Waan**

Muslimni ogga qulqulleeffame jedhu

٢٣٢ - ((اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرْ لِي
مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا
يَظْنُونَ)). [٨٩٠]

- ٢٣٧ Yaa Rabbi waan isaan jedhaaranuun na hin qabin. Waan isaan hin beekne naaf araarami. Waan isaan yaadaaran irra gaarii na taasisi.” [٨٩١]

١١٥ - كَيْفَ يُلَبِّي الْمُحْرِمُ فِي الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةِ

٤٤٩. . ١٢١ Muhrimni
hajjiifi umraa keessatti akkamiin
talbiyaa jedha

٢٣٣ - ((لَبِيْكَ اللَّهُمَّ لَبِيْكَ، لَبِيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
لَبِيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ
لَكَ)). ([٨٩٩])

- ٢٣٨ Siif owwaadhe yaa Rabbi siif
owwaadhe! Shariikni siif hin jiruu
siif owwaadhe. Faaruun, qananiifi
mootummaan kan keeti. Shariikni
siif hin jiru. "[٨٩٩]

١١٦ - التَّكْبِيرُ إِذَا أَتَى الْحَجَرَ الأَسْوَدَ

٤٤٩. . ١٢٢ Takbiiraa
yroo rukn al-aswaditti dhufanii

٢٣٤ - ((طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلُّمَا
أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ عِنْدَهُ
وَكَبَرَ)). ([٨٩٨]).

- ٢٣٩ Nabiyyiin (saw) gaala irra
taa'anii ka'abaa irra naanna'an.
Hanguma ruknal aswaditti
dhufanuun, wahiin itti akeekanii
takbiiraa godhu. [\[٨٩٨\]](#)

١١٧ - الدُّعَاءُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ
الْأَسْوَدِ

٦٦٢. . ١٢٣ Du'aa'ii
jidduu Rukn Alyamaaniifi Hajar
Al-aswaditti godhamu

٢٣٥ - ((رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)). ([٨٩٩]).

- ٢٤٠ Gooftaa keenya! addunyaatti toltaa, Aakhirattis toltaa nuuf ketti; adabbii ibiddaa irraa nu baraari." [٨٩٩]

١١٨ - دُعَاءُ الْوُقُوفِ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٦٦٥. .١٢٤ Du'aa'ii

Safaafî Marwaa irratti godhamu

٢٣٦ - ((لَمَّا دَنَّ النَّبِيُّ ﷺ مِن الصَّفَا قَرَأَ:) نَّ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ
اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ
تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْمٌ} .. {البقرة :
١٥٨ } أَبْدَأَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ) فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقَيَ
عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّهَ
وَكَبَرَهُ وَقَالَ: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ،

وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)) الْحَدِيثُ. وَفِيهِ: ((فَقَعَ عَلَى المَزْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَّا)). ([89])

980- Nabiyyiin (saw) yeroma Safaatti dhihaatanu "[gaarri] Safaafi Marwaa mallattoolee Rabbii irraayi" jechuu qara'an. "Waan Rabbiin jalqabeenin jalqaba" jedhan. Safaatti ol ba'anii Manicha (ka'abaa) argan. Qiblaatti gara galanii Rabbiin tokkoomsanii isa guddisan. Ni jedhan: "Laa Ilaaха Illallaah; Wahdahuu laa shariika lah. Lahul mulk, walahul hamdu wahuwa alaa kulli shay'iin qadiir. Laa ilaaha illallaahu wahdah, anjaza wa'adah; wa nasara abdah. Wahazamal

ahzaaba wahdah" hiikti isaas
"Dhugaan gabbaramaan Rabbiin
malee hin jiru; inni tokkicha.
Shariikni isaaf hin jiru.
Mootummaan kan isaati; faaruunis
kan isaati. Inni waan cufa irratti
danda'aadha. Dhugaan gabbaramaan
Rabbitiin malee hin jiru. Beellama
isaa ni guute; garbicha isaas ni
tumse; garee diinotaas kophaa isaa
bittinneesse." Ergasii jidduu sanatti
du'aa'ii godhanii fakkiidhuma isa
kanaa yeroo sadii jedhan. Ergasii
Safaa irraa gara Marwaatti bu'an.
Yeroma miilli isaanii garaa dhiibuu
keessa gadi dhaabbatu ni fiigan.
Yeroo ol koran immoo gara Marwaa
deeman. Marwaa irrattis

fakkiid huma waan Safaa irratti
hojjatanii hojjatan."

١١٩ - الدُّعَاءُ يَوْمَ عَرَفةَ

٦٩٠. ١٢٥ Du'aa'ii

guyyaa Arafaa

٢٣٧ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)). ([٨٩٤])

- ٢٤٢ Caalaan du'aa'ii, du'aa'ii guyyaa Arafaati. Caalaan waan anifi nabiyyoonni ana duraa jedhanii "Dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru; inni tokkicha. Shariikni isaaf hin jiru. Mootummaan kan isaati; faaruunis

kan isaati. Inni waan cufa irratti
danda'aadha.”[\[٨٩٠\]](#)

١٢٠ - الْذِكْرُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

[٦٩٦.](#) .[١٢٦](#) Zikrii

Mash'ar Alharaam biratti godhamu

٢٣٨ - ((رَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى
الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ،
وَهَلَّهُ، وَوَحَّدَهُ) فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا
فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ))[\(\[٨٩١\]\)](#).

- ٢٤٣ Nabiyyiin (saw) geejjiba
yaabbatanii mash'aral Haraamiin
dhufanii qiblaatti deebi'uun du'aa
godhan; Rabbiin guddisan. Laa
Ilaaha Illallaah jedhan. Isa
tokkichoomsan. Hanga bareechee

ifutti achi dhaabatan. Achumaan
odoo biiftuun hin bahin
deeman.[\[٨٩٩\]](#)

١٢١ - التَّكْبِيرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ مَعَ كُلِّ حَصَاءٍ

[\[٩٩\]](#). ١٢٧ Yeroo

jamraa darbatan takbiiraan
shafee hunda waliin jedhama

٢٣٩ - ((يُكَبِّرُ كُلُّمَا رَمَى بِحَصَاءٍ عِنْدَ الْجِمَارِ
الثَّلَاثَ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، وَيَقْفُزُ بَدْعَوْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ،
رَافِعًا يَدِيهِ بَعْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ. أَمَّا جَمْرَةُ
الْعَقْبَةِ فَيَرْمِيَهَا وَيُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاءٍ وَيَنْصَرِفُ
وَلَا يَقْفُزُ عِنْدَهَا)). ([٨٩٩])

٩٨٨- Jamraa sadan birattuu
hanguma shafee darbatuun takbiiraa
godha. Jamraa tokkoffaafi
lammaffaa booda gara fuulduraa

deemee qiblaatti deebi'ee harka isaa
ol fuudhee du'aa'ii godha. Jamrat
Al-aqabaa biratti immoo ishee
darbatee shafee hunda biratti
takbiiraa jedha. Ergasii ni deema
dhaabatee du'aa'ii hin godhu.”[\[٨٩٨\]](#)

١٢٢ - دُعَاءُ التَّعْجِبِ وَالْأَمْرِ السَّارِ

٦٩٩. . ١٢٨ **Du'aa'ii**
nama waa ajaa'ibsiifateefi wahitti
gammadee

. (١) ((سُبْحَانَ اللَّهِ!)) ([٨٩٨]). ٢٤٠

- ٢٤٥ Rabbiin qulqullaa'e!”[\[٨٩٩\]](#)

. (٢) ((اللَّهُ أَكْبَرُ!)) ([٨٩٧]). ٢٤١

- ٢٤٦ Rabbiin hundarra
guddaadha.”[\[٨٩١\]](#)

١٢٣ - مَا يَفْعُلُ مَنْ أَتَاهُ أَمْرًا يَسِّرُه

٩٩٨. . ١٢٩ Waan
namni dhimmi isa gammachiisu
itti dhufe hojjatu

٢٤٢ - ((كَانَ النَّبِيُّ صَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرًا يَسِّرُهُ أَوْ يُسَرُّهُ
بِهِ حَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِّلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى)).[\[٨٩٥\]](#)

- ٢٤٧ Nabiyyiin (saw) yeroo
dhimmi isaan gammachiisu yookiin
itti gammadamu isaanitti dhufe
galata Rabbii guddatee ol ta'eetiif
sujuudii bu'u turan.”[\[٨٨٠\]](#)

١٢٤ - مَا يَفْعُلُ وَيَقُولُ مَنْ أَحَسَّ وَجَعًا فِي جَسَدِهِ

٦٩٨.

. ١٣٠ Waan

namni dhukkubni qaama isaatti dhaga’ame jedhu

٢٤٣ - ((ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأْلَمَ مِنْ جَسَدِكَ
وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ
وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَادِرُ)). ([٨٨٧])

- ٢٤٨ Qaama kee isa laalate irra harka kee kaa’ii si’ a sadii “maqaa Rabbiitiin” jedhi. Ergasii si’ a torba kan armaan gadii jedhi: “hamtuu natti dhaga’amaaruufi sodaadhu irraa Rabbiifi dandeettii isaattin maganfadha.” [٨٨٩]

١٢٥ - دُعَاءٌ مَنْ خَشِيَ أَنْ يُصِيبَ شَيْئاً بِعَيْنِيهِ

٤٩٩. ١٣١ Du'aa'ii

namni ija isaatiin waa tuquu
sodaate godhu

٤٤ - ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ، أَوْ مِنْ نَفْسِهِ،
أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ [فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ] فَإِنَّ
الْعَيْنَ حَقٌّ)). [٨٨٧]

٩٨٤- Tokkoon keessan yeroo
obboleessa isaa, lubbuu isaa yookiin
qabeenya isaa irraa waan isa
ajaa'ibsiise arge barakaa haa
kadhatuuf. Ijji (**budaan**)
dhugaadha.” [٨٨٨]

١٢٦ - مَا يُقَالُ عِنْدَ الْفَرَّاعِ

٤٩٩. ١٣٢ Waan
yeroo naasuu jedhamu

٤٥ - ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ!)) [٨٨]

- ٤٥٠ Dhugaan gabbaramaan
Rabbiin malee hin jiru.” [٨٩]

٤٦ - مَا يَقُولُ عِنْدَ الدُّبْحِ أَوِ النَّحْرِ

٤٧. ٤٩١. Waan
yeroo gorraasuu jedhamu

٤٦ - ((بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ [اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ]
اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي)) [٨٩]

- ٤٧ Maqaa Rabbiitiin; Rabbiin
hundarra guddaadha. Yaa Rabbi si
biraayyi simaafin qalaaras. Yaa
Rabbit narraa qeebali.

٤٨ - مَا يَقُولُ لِرَدِّ كَيْدِ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ

٦٩٤.

.١٣٤ Toftaa

shayxaana fincilaa deebisuuf waan jedhamu

٢٤٧ - ((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرًّا وَلَا فَاجِرًّا : مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَبَرَأَ وَذَرَأً، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأً فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ)). ([٨٨])

- ٢٥٢ Hamtuu Rabbiin uume,
khallaqeefi facaase irraa, hamtuu
samii bu'uufi hamtuu ol koru irraa,
hamtuu inni dachii keessa facaaseefi
hamtuu ishee irraa bahu irraa,
hamtuu mokkoroo guyyaafifi halkanii
irraa, hamtuu waan halkan dhufuu

kan khayriin hin dhufnee irraa
jechoolee Rabbii guutuu kan warri
gaggaariifi hamaanillee bira hin
tarreenin maganfadha yaa
Rahmaan.”**[٨٨٥]**

١٢٩ - الاستغفار والتوبة

٤٧٠. .١٣٠ Araarama kadhachuufi tawbachuu

٢٤٨-(١) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ: ((وَاللَّهِ إِنِّي لَا سْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً)).([٨٨٠])

-٢٥٣ Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: “wallaahii ani guyyaa tokko keessatti si'a torbaatamaa olin araarama Rabbiin kadhee tawbaa gara isaatti deebi'a.”**[٨٨١]**

٢٤٩ - (٢) وَقَالَ عَلِيُّهِ السَّلَامُ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوْبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةً مَرَّةً)). ([٨٨٩])

٩٨٨- Nabiyyiin (saw) ni jedhan:
“yaa namootaa tawbaa godhaa gara
Rabbii deebi’aa. Ani guyyaa tokko
keessatti si’ a dhibban
tawbadha.” [٨٨٧]

٢٥٠ - (٣) وَقَالَ عَلِيُّهِ السَّلَامُ: ((مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الرَّحْمَةِ)). ([٨٨٨])

- ٢٥٥ Ergamaan Rabbii (saw) ni
jedhan: “namni ‘Rabbii guddaa isa
dhugaan gabbaramaan isa malee hin
jirre, jiraataa, waan hunda to’ataan

araarama kadha; tawbadheen gara
isa deebi'a' jedhe, odoma lola irraa
baqateera ta'ee Rabbiin isaaf
araarama.”**[888]**

٢٥١-(٤) وَقَالَ عَنْهُ اللَّهُ أَكْثَرُ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ).([889]).

- ٢٥٦ Ergamaan Rabbii (saw) ni
jedhan: “yeroon Rabbiin akkaan
gabrichatti dhihaatu dhuma halkanii
keessa. Yoo nama yeroo sana keessa
Rabbit faarsuu danda'u taateef
isaan irraa ta'i.”**[889]**

٢٥٢-(٥) وَقَالَ عَنْهُ اللَّهُ أَكْثَرُ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءِ).([887]).

- ٢٥٧ Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: “yeroon gabrichi akkaan Rabbii isaatti dhihaatu ogga sujuudiiti. Kanaafuu du’aa’ii baay’isaa.” **[٨٨٤]**

٢٥٣ - (٦) وَقَالَ عَلَيْهِ الْمَسِيحُ أَنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قُلُوبِي وَإِنِّي لَا سُتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً ([٨٦٠]).

٩٨١ - Nabiyyiin (saw) ni jedhan: “yeroo garii qalbii kiyya irra haguuga. Ani guyyaa keessatti si’ a dhibban Rabbiin araarama kadha.” **[٨٦١]**

١٣٠ - فَضْلُ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّهْلِيلِ،
وَالتَّكْبِيرِ

١٣٦ Sadarkaa tasbiihiin, Rabbiin faarsuun, tahliilliifi takbiiraan qabu [٨٩٩]

٤-٢٥٤ ((قَالَ مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطِّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)). ([٨٩٩]).

- ٢٥٩ Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: “namni guyyaatti si’ a dhibba “faaruu isaa waliin Rabbiin qulqullaa’ e” jedhe badiin isaa odoma fakkii oomocha bahrii ta’eeyyuu irraa harca’ a.” [٨٩٨]

٢٥٥- (٢) وَقَالَ ﷺ: ((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ، كَانَ كَمْنَ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلٍ)). ([٨٩٨]).

- ۲۶۰ Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: “namni si’ a kudhan ‘dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru. Inni tokkicha. Shariikni isaaf hin jiru. Mootummaan kan isaati; faaruunis kan isaati. Inni waan cufa irratti danda'aadha’ jedhe akka nama ilmaan Ismaa’iil irraa nama kudhan bilisoomsee ta’ a.” [٨٦٦]

٢٥٦ - (٣) وَقَالَ ﷺ: ((كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَسِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ)). [٨٦٧]

- ۲۶۱ Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: “himoonni lama arraba irratti sasalphoo, madaala keessatti

gurguddoo, gara Arrahmaanitti jaallatamtuun ‘Rabbiin faaruu isaa waliin qulqullaa’e. Rabbiin guddaan qulqullaa’e’ kan jedhuudha.”[٨٦]

٢٥٧ - (٤) وَقَالَ ﷺ: ((لَانْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)).[٨٧]

- ٢٦٢ Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: “ani ‘Rabbiin qulqullaa’e; faaruun kan Rabbiiti. Dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru. Rabbiin hundarra guddaadha’ jechuutu waan biiftuun irratti baate irra na biratti jaalatama.”[٨٩]

٢٥٨ - (٥) وَقَالَ ﷺ: ((أَيَغْرِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةً)) فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ

كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةً؟ قَالَ: ((يُسَبِّحُ مِائَةً
تَسْبِيحةً، فَيُكَتَّبُ لَهُ أَلْفٌ حَسَنَةٌ أَوْ يُحَاطُ عَنْهُ أَلْفٌ
خَطِئَةٍ)). ([٨٩١])

٩٩٩- Nabiyyiin (saw) ni jedhan:
“tokkoon keessan guyyaa hundaa
toltuu kuma hojjachuu dadhabaa?”
Namni tokko “tokkoon keenya
akkamitti toltaa kuma hojjachuu
danda'a?” jedhe. Nabiyyiin (saw) ni
jedhan: “tasbiihaa dhibba jedha.
Kanaan toltaun kumni isaaf
barreeffama yookiin badiin kumni
isarraa harcaafama.” [٨٩٩]

٢٥٩- (٦) ((مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ
غُرِستُ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ)). ([٨٩١])

٩٩٨- Nama “Rabbiin guddaan faaruu isaa waliin qulqullaa’e” jedhe, jannata keessatti nakhliin isaaf dhaabamti. [٨٩٨]

٢٦٠-(٧) وَقَالَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا
أَدْلُلَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: بَلَى يَا
رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ)). [٨٩٨]

٩٩٨- Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: “Yaa Abdullaah bin Qays kuusaa kuusaalee jannataa irraa ta’e si akeekuu?” Eeydeen yaa Ergamaa Rabbiin jedhe. Nabiyyiin (saw) ni jedhan: “tooftaafi humni Rabbiin biraan malee hin jiru’ jedhi.” [٨٩٩]

٢٦١ - (٨) وَقَالَ ﷺ: ((أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ)). [٨٩٩]

- ٢٦٦ Nabiyyiin (saw) ni jedhan:
 “haasaan Rabbiin biratti akkaan jaallatamaan afuri: Rabbiin qulqullaa’ e; faaruun kan Rabbiiti. Dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru. Rabbiin hundarra guddaadha.’ Isaan keessaa kamiinuu eegaltu si hin miidhu.” [٨٩٧]

٢٦٢ - (٩) جَاءَ أَعْرَابِيًّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: عِلْمَنِي كَلَامًا أَقُولُهُ: قَالَ: ((فُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)) قَالَ: فَهَؤُلَاءِ لِرَبِّي، فَمَا

لَيْ؟ قَالَ: ((قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي،
وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي)). ([٨٩٤])

- ۲۶۷ Namni baadiyyaa tokko gara
 Ergamaa Rabbii (saw) dhufee ni
 jedhe: ‘jecha ani jedhu na barsiisi.’
 Nabiyyiin (saw) ni jedhan:
 “”Dhugaan gabbaramaan Rabbiin
 malee hin jiru. Inni tokkicha.
 Shariikni isaaf hin jiru. Rabbiin
 guddina isaan malu guddate.
 Faaruun baay’een kan Rabbiiti.
 Rabbiin gooftaan aalamaa
 qulqullaa’e. Tooftaafi humni, Rabbii
 injifataa ogeessa biraa malee hin
 argamu’ jedhi.” Namichis “kuni
 Rabbi kootiifi. Anaahoo?” jedhe.
 Nabiyyiin (saw) ni jedhan: “yaa

Rabbi naaf araarami. Na
mararfadhu. Na qajeelchi. Na soori”
jedhi.[٨٥٠]

٢٦٣ - (١٠) كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ
الصَّلَاةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: ((اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي
وَارْزُقْنِي)). ([٨٥١])

٩٩٥ - Namni tokko yeroo inni
islaama’e Nabiyyiin (saw) salaata
isa barsiisu. Ergasii jechoota armaan
gadiitiin kadhachuu isa barsiisu:
“yaa Rabbi naaf araarami. Na
mararfadhu. Na qajeelchi. Nagaa na
godhi. Na soori.”[٨٥٩]

٢٦٤ - (١١) ((إِنَّ أَفْضَلَ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)). ([٨٥٧])

- ۲۶۹ Caalaan du'aa'ii 'faaruun kan
Rabbiiti' jechuu yoo ta'u zikriin
caalaan 'dhugaan gabbaramaan
Rabbiin malee hin jiru' kan
jedhuudha." [٨٢٨]

٢٦٥ - (١٢) ((الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ،
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)). [٨٢٨]

- ۲۷۰ Jechooleen haftuun gaggaariin
'Rabbiin qulqullaa'e. Faaruun kan
Rabbiiti. Dhugaan gabbaramaan
Rabbiin malee hin jiru. Rabbiin
hundarra guddaadha. Tooftaafi
humni Rabbiin biraa malee hin jiru"
kan jedhuudha [٨٢٩]

١٣١ - كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَبِّحُ؟

٤٩٩. ١٣٧Nabiyyiin (saw) akkamitti tasbiiha godhu

٢٦٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ)) وَفِي زِيَادَةِ: ((بِيمِينِهِ)) [٨٢٩].

- ٢٧١ Abdullaah bin Amr irraa odeeaffamee (ra) ni jedhe: “kan Nabiyyiin (saw) quba mirgaa isaaniitiin tasbiiha godhanin arge.” [٨٢٩]

١٣٢ - مِنْ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ وَالْأَدَابِ
الْجَامِعَةِ

٤٩٩. ١٣٨Gosoota toltuufi naamuusa walii gala

٢٦٧ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُوا صِبِيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ؛ فَإِنَّ الشَّيَطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِرُوا آنِيَتَكُمْ، وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِلُوا مَصَابِيَحَكُمْ)). ([٨٢])

- ٢٧٢ Yeroo sa'aatiin halkanii dhufe
daa'imman keessan qabaa.
Shayxaanni yeroo kana keessa
faffaca'u. Yeroo sa'aatiin halkanii
hangaa ta'e deeme isaan lakkisaa.
Hulaa cufaa. Maqaa Rabbii irratti
dubbadhaa. Shayxaanni hulaa
cufame hin banu. Qalqalloo keessan
hidhaatii maqaa Rabbii irratti
dubbadhaa. Meeshaa keessan odoma

waan ta'e irra fiduu ta'ee
qadaadaatii maqaa Rabbii irratti
dubbadhaa. Ifaa keessanis
dhaamsaa.”**[٨٤٠]**

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهٖ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Rahmanni Rabbii, nageenyi isaatiifi
barakaan isaa Nabiyyii keenya
Muhammad, maatii isaaniitiifi
sahaabota isaanii hundarra haa
jiraatu.

[٩] Tirmiziifi Ibn Maajaatu
gabaasan. Sahih Attirmizii ٩/٢٩٤
ilaali.

[9] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[8] Tirmiziifi Ibn Maajaatu gabaase.

[8] Tirmiziitu gabaase. Albaaniin Sahiih Aljaami'iin keessatti sahiiha godheera.

[9] Muslimtu gabaase.

[□] Abuu Daawudtu gabaase. Albaaniin Sahiih Aljaami'iin keessatti sahiiha godheera.

[10] Tirmiziitu gabaase.

[10] Abuu Daawudtu gabaase. Albaaniin Sahiih Aljaami'iin keessatti sahiiha godheera.

[٨٨] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[٨٩] Nama kana jedhe araaramni isaaf godhama; yoo kadhate isaaf owwaatama. Yoo ka'ee wuduu'atee salaate irraa qeebalama. Bukhaariitu gabaase.

[٩٠] Tirmiziitu gabaase. Albaaniin sahiiha godheera.

[٩١] Aayata Aali Imraan: ٩٤٠ – 900
Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[٩٢] Nasaa'iin qofti osoo hafuu warra sunana arfaniitu gabaasan.

[٩٣] Abuu daawudtu gabaase.

[98] Abuu Daawudtu gabaase.

Albaaniin sahiiha godheera.

[99] Ibn Maajaatu gabaase.

Albaaniin sahiiha godheera.

[100] Tirmiziitu gabaase.

[101] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[102] Nasaa'iin qofti osoo hafuu
warra arfantu gabaasan.

[103] Abuu Daawud, Ibn Maajaahfi
Ahmadtu gabaasan.

[104] Muslimtu gabaase.

[105] Tirmiziitu gabaase.

[٨٧] Nasaa'iitu hojii halkaniifi guyyaa keessatti gabaase.

[٨٨] Abuu Daawudiifi Tirmiziitu gabaasan.

[٨٩] Warra sunanaa arfantu gabaase. Albaaniin sahiiha godheera.

[٨١] Abuu Daawudtu gabaase. Ibn Baaz sanada Isaa Tuhfat Al-Akhbaar keessatti Hasan godhan.

[٨٢] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[٨٣] Tirmiziitu gabaase.

[٨٤] Bukhaariitu Adab Almufrad keessatti gabaase. Albaaniin sahiiha godheera.

[٨٩] Ibn Hajartu Fat-h Albaarii
keessatti dubbate.

([٥٣])

المستطاب، ص ٧٠٦.)

[٨٩] Abuu Daawudtu gabaase.
Albaaniin sahiiha godheera.

[٩٠] Ibn assunniitu gabaase.

[٩١] Abuu Daawudtu gabaase.
Albaaniin sahiiha godheera.

[٩٢] Muslimtu gabaase.

[٩٣] Wabii tare ilaali.

[٩٤] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[၁၉၅] Muslimtu gabaase.

[၁၉၆] Ibn Khuzeeymaatu gabaase.

[၁၉၇] Muslimtu gabaase.

[၁၉၈] Bukhaariitu gabaase. Inni hammattuu lamaan keessaa kan Bayhaqiiti. Sanada isaa Ibn Baaz tuhfatul Akhyaar keessatti hasan godheera.

[၁၉၉] Tirmiziifi Abuu Daawudtu gabaasan.

[၂၀၀] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[၂၀၁] Warra sunanaa afrantu gabaasan.

[۱۹] Muslimtu gabaase.

[۲۰] Muslimtu gabaase.

[۲۱] Muslimtu gabaase.

[۲۲] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[۲۳] Warra sunanaa arfaniifi
Ahmadtu gabaase.

[۲۴] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[۲۵] Muslimiifi Abuu Daawudtu
gabaasan.

[۲۶] Muslimiifi arba'aatu gabaasan.

[۲۷] Abuu Daawudiifi Nasaa'iitu
gabaasan.

[٢٠٨] Bukhaariitu gabaase.

[٢٠٩] Bukhaariitu gabaase.

[٢٠٨] Muslimtu gabaase.

[٢٠٩] Arba'aafi Ahmadtu gabaasan.

[٢٠٩] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[٢٠٩] Muslimiifi Abuu Daawudtu
gabaasan.

[٢٠٩] Muslimtu gabaase.

[٢٠٨] Abuu Daawudiifi Nasaa'iitu
gabaasan. Albaaniin sahiiha
godheera.

[٢٠٩] Muslimtu gabaase.

[[888](#)] Muslimtu gabaase.

[[889](#)] Abuu Daawudtu gabaase.
Albaaniin sahiiha godheera.

[[890](#)] Arba'aatu gabaasan. Albaaniin
sahiiha godheera.

[[891](#)] Tirmizii, Ahmadiifi Haakimtu
gabaasan. Al-Haakim sahiiha
godhee Zahabiinis isa deeggare.

[[892](#)] Tirmiziifi Alhaakimtu
gabaasan. Al-Haakim sahiiha
godhee Zahabiinis isa deeggare.

[[893](#)] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[[894](#)] Bukhaariitu gabaase.

[۱۹۷] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[۱۹۸] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[۱۹۹] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[۲۰۰] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[۲۰۱] Muslimtu gabaase.

[۲۰۲] Abuu Daawudiifi Nasaa'iitu
gabaasan. Albaaniin sahiih
godheera.

[۲۰۳] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[۱۸۹] Abuu Daawudtu gabaase.
Albaaniin sahiiha godheera.

[۱۹۰] Nasaa'iifi Ahmadtu gabaasan.
Albaaniin sahiiha godheera.

[۱۹۱] Nasaa'iifi Ahmadtu gabaasan.
Albaaniin sahiiha godheera.

[۱۹۲] Arba'aatu gabaasan.
Albaaniin sahiiha godheera.

[۱۹۳] Abuu Daawud, Tirmiziifi Ibn
Maajaatu gabaasan. Albaaniin
sahiiha godheera.

[۱۹۴] Muslimtu gabaase.

[۱۹۵] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[۱۹۸] Muslimtu gabaase.

[۱۹۹] Muslimtu gabaase. Namni salaata hunda booda kana jedhe yakki isaa odoma hanga oomocha garbaa ta'ee isaaf dhiifama.

Muslimtu gabaase.

[۲۰۰] Nama hunda irrattuu shayxaanni qalbii isaa irratti luugama godhatee taa'u qindeeffameera. Yeroo namni Rabbiin dagate isa waswaasee badiitti kakaasa. Yeroo inni Rabbiin yaadatee zikrii adda addaa godhe irraa fagaatee dhokata. Kan Nabiyyii (saw) qofatu islaama'ee inni toluntuutti malee isaan hin ajaju.

“Khannaas” jechuun isa yeroo
namni Rabbiin yaadate dhokatu.

[۱۹۸] Abuu Daawudiifi Nasaa’iit
gabaasan. Suuraan kun sadan
“mu’awwazataynii” jedhamu.

[۱۹۹] Nama salaata hunda booda isa
qara’e jannata galuu irraa wanti isa
dhorge du’uu dhabuu qofa.
Nasaa’iifi Ibn Assunniitu gabaasan.
Albaaniin Sahiih Aljaami’iin
keessatti sahiiha godheera.

[۲۰۰] Tirmiziifi Ahmadtu gabaasan.

[۲۰۱] Ibn Maajaatu gabaase.
Albaaniin sahiiha godheera.

[۱۹۰] Salaanni Istikhaaraa salaata
yeroo dhimmi lama namarratti wal
makate isa gaarii akka Rabbiin nama
filachiisuuf salaatamuudha.

[۱۹۹] Bukhaariitu gabaase.

[۲۰۰] Suuraa Aali Imraan: ۱۸۱.

[۲۰۸] Suurat Albaqaraa: ۹۸۸.
Namni ganama ishee jedhe hanga
dhihutti jinnii irraa tikfama. Namni
galgala ishee jedhe immoo hanga
ganamaatti jinnii irraa tikfama.
Alhaakimtu gabaase. Albaaniin
sahiiha godheera.

[۲۰۹] Nama hunda irrattuu
shayxaanni qalbiî isaa irratti
luugama godhatee taa'u

qindeeffameera. Yeroo namni
Rabbiin dagate isa waswaasee
badiitti kakaasa. Yeroo inni Rabbiin
yaadatee zikrii adda addaa godhe
irraa fagaatee dhokata. Kan Nabiyyii
(saw) qofatu islaama'ee inni
toltuutti malee isaan hin ajaju.
“Khannaas” jechuun isa yeroo
namni Rabbiin yaadate dhokatu.

[۹۹] Nama ganamaafi galgalaa si'a
sadii isaan kana qara'e waan
hundarrraa isa geessi. Abuu
Daawudiifi Tirmiziitu gabaasan.
Albaaniin sahiiha godheera.

[۱۰۰] Galgala immoo dhiisifane
mootummaanis kan Rabbii ta'e
dhiisifate jedha.

[۱۷۹] Galgala immoo toltaan halkan kana keessa jiru jedha.

[۱۸۰] Muslimtu gabaase.

[۱۸۱] Galgala immoo siin dhiisifannee siin bariisifanne jedha.

[۱۸۲] Tirmiziitu gabaase. Albaaniin sahiiha godheera.

[۱۸۳] Namni galgala qalbii isaatiin ishee dhugeessee jedhe halkan sana irraa du'e jannata seena. Ganamas akkuma kana. Bukhaariitu gabaase.

[۱۸۴] Galgala immoo dhiisifadhe jedha.

[٨٨٨] Namni ogga bariisifatu yookiin dhiisifatu kana si'a afur jedhe Rabbiin ibidda irraa bilisa isa godha. Abuu Daawudtu gabaase. Ibn Baaz sanada isaa Hasan godheera.

[٨٨٩] Galgala yoo ta'e immoo oole jedha.

[٨٨١] Namni ganama ishee jedhe shukrii guyyaa sanaa guuteera. Namni galgala ishee jedhe immoo shukrii halkan sanaa guuteera. Abuu Daawudiifi Nasaa'iit gabaasan. Ibn Baaz sanada isaa Hasan godhan.

[٩٠٠] Abuu Daawudiifi Ahmadtu gabaasan. Ibn Baaz sanada Isaa

Tuhfat Al-Akhbaar keessatti Hasan godhan.

[909] Nama ganamaafi galgala si'a torba ishee jedhe dhimma addunyaafi aakhiraan waan isa yaachisu Rabbiin isaaf gaha. Abuu Daawudtu gabaase. Shu'ayb Al-Arnaa'uuxiin sanada isaa hasan godhe.

[908] Abuu Daawudiifi Ibn Maajaatu gabaasan. Albaaniin sahiiha godheera.

[909] Tirmiziifi Abuu Daawudtu gabaasan. Albaaniin sahiiha godheera.

[90] Nama ganama si'a sadii jedhee galgalas si'a sadii jedhe homaa isa hin miidhu. Abuu Daawud, Tirmiziifi Ahmadtu gabaasan.

[900] Nama ganama si'a sadii jedhee galgalas si'a sadii jedhe Rabbiin Guyyaa Qiyaamaa [mindaa isaaf kennuudhaa] isa jaalachiisuuf waadaa seene. Ahmadiifi Nasaa'iitu gabaasan. Ibn Baaz sanada Isaa Tuhfat Al-Akhbaar keessatti Hasan godhan.

[909] Alhaakimtu gabaase. Sahiiha godheeras. Zahabiinis isa deeggare. Albaaniin sahiiha godheera.

[909] Galgala immoo akkana jedha:
“dhiisifanne. Mootummaanis kan
Rabbii mootii aalamaa ta’ee
dhiisifate. **Yaa Rabbi ani khayrii
halkan kanaan si kadha:** injifannoo
ishee, tumsa ishee, ifaa ishee,
barakaa isheefi qajeeluma ishee.
Sherrii ishee keessa jiruufi sherrii
booda ishee jiru irraa sittin
maganfadha.

[909] Abuu Daawudtu gabaase.
Shu’aybiifi Abdul Qadir Al-
Arnaa’uxxiin sahiiha godhaniiru.

[990] Galgala immoo dhiisifanne
jedha.

[998] Ahmadiifi Ibn Assunniitu gabaasan. Albaaniin Sahiih Aljaami'iin keessatti sahiiha godheera.

[999] Namni ganamaafi galgala si'a dhibba kana jedhe namni tokkollee Guyyaa Qiyaamaa isa caalee hin dhufu nama fakkaataa isaa yookiin kan isa caalu jedhe malee. Muslimtu gabaase.

.

[999] Nasaa'iit gabaase. Albaaniin sahiiha godheera.

[999] Abuu Daawudiifi Ibn Maajaatu gabaasan. Albaaniin sahiiha godheera.

[998] Namni kana ganama si'a dhibba jedhe mindaa nama kudhan bilisoomsuu isaaf ta'eeti mindaan dhibbi isaaf barreeffama. Yakki dhibbi irraa haqama. Guyyaa gaafasii hanga dhihutti shayxaana irraa isa tiksa. Namni tokkollee isa caalee hin dhufu kan isaa caalu hojjate malee. Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[999] Muslimtu gabaase.

[999] Ibn Assunniifi Ibn Maajaatu gabaasan. Shu'aybiin sahiiha godheera.

[998] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[٩٩٣] Nama galgala ishee kana si'a sadii jedhe halkan sana summii bofaafi kkf irraa tikfama. Ahmadiifi Nasaa'iitu gabaasan. Albaaniin sahiiha godheera.

[٩٩٤] Namni ganamaafi galgala si'a kudhan narratti rahmata buuse Guyyaa Qiyaamaa shafaa'aa kiyya argata." Axxabraaniitu sanada lamaan gabaase. Inni tokko gaariidha. Albaaniin sahiiha godheera.

[٩٩٥] Nama hunda irrattuu shayxaanni qalbii isaa irratti luugama godhatee taa'u qindeeffameera. Yeroo namni Rabbiin dagate isa waswaasee

badiitti kakaasa. Yeroo inni Rabbiin yaadatee zikrii adda addaa godhe irraa fagaatee dhokata. Kan Nabiyyii (saw) qofatu islaama'ee inni toluntuutti malee isaan hin ajaju. “Khannaas” jechuun isa yeroo namni Rabbiin yaadate dhokatu.

[980] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[980] Namni yeroo gara firaashii isaa dhaqu isaan qara'e tiksaan Rabbiin biraa ta'e isa bira hin dhibamu. Hanga bariisifatutti shayxaanni isatti hin siqatu. Bukhaariitu gabaase.

[989] Amanuu jechuun
dhugoomsuudha. Rabbitti amanuu
jechuun tokkummaa isaa
dhugoomsuu yoo ta'u,
Malaa'ikootatti amanuun immoo
isaan gabroota Rabbii gaggaarii
ajaja isaa hin dinne kan ifaa irraa
isaan uume ta'uu isaanii
dhugoomsuudha; Ergamootaafi
kitaabotatti amanuun immoo haqaan
Rabbiin biraadhuu dhufuu isaanii
dhugoomsuudha.

[989] Albaqaraa: 98-99.
Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.
Halkan keessa nama isaan qara'eef
waan hundarra isaaf gaha.

[989] Muslimiif Ahmadtu gabaase.

[980] Abuu Daawudtu gabaase.
Albaaniin sahiiha godheera.

[989] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[988] Namni yeroo gara hirribaa
deemu kana jedhe khaadima
qabaachuurra isaaf caala.
Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[989] Muslimtu gabaase.

[98□] Muslimtu gabaase.

[990] Abuu Daawudtu gabaase.
Albaaniin sahiiha godheera.

[999] Tirmiziifi Nasaa'iitu gabaasan.
Albaaniin Sahiih Aljaami'iin
keessatti sahiiha godheera.

[998] Nabiyyiin (saw) nama kana
jedheen ni jedhan: “yoo duuteef
Islaama irratti duuta.” Bukhaariifi
Muslimtu gabaasan.

[999] Kana yeroo halkan keessa
cinaacha tokko irraa kan biraatti
jijiirrate jedha. Alhaakimtu gabaase.
Sahiiha goonaan Zahabiin isa
deeggare.

[998] Abuu Daawudtu gabaase.
Albaaniin sahiiha godheera.

[999] Muslimtu gabaase.

[۹۹۷] Muslimtu gabaase.

[۹۹۸] Muslimtu gabaase.

[۹۹۹] Muslimtu gabaase.

[۹۱۰] Muslimtu gabaase.

[۹۱۱] Khamsatu gabaasan.

Albaaniin sahiiha godheera.

[۹۱۲] Khamsatu gabaasan.

Albaaniin sahiiha godheera.

[۹۱۳] Albayhaqiju sunana guddaa
keessatti gabaase. Albaaniin sahiiha
godheera.

[9۱۹] Nasaa'iifi Addaaraquxniitu gabaasan. Shu'ayb Al-Arnaa'uuxiin sahiiha godhe.

[9۱۴] Ahmadtu gabaase. Albaaniin sahiiha godheera.

[9۱۵] Bukhaariitu gabaase.

Ergamaan Rabbii (saw) du'aa'ii kana baay'isu turan.

[9۱۶] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[9۱۷] Abuu Daawudiifi Ahmadtu gabaasan. Albaaniin Hasan godheera.

[٩٤٣] Tirmiziifi Alhaakimtu gabaasan. Albaaniin sahiiha godheera.

[٩٤٤] Abuu Daawudtu gabaase. Albaaniin sahiiha godheera.

[٩٤٥] Abuu Daawudtu gabaase. Alhaakim sahiiha godhe. Zahabiinis isa deeggare.

[٩٤٦] Abuu Daawudiifi Tirmiziitu gabaasan. Albaaniin sahiiha godheera.

[٩٤٧] Bukhaariitu gabaase.

[٩٤٨] Bukhaariitu Adab Almufrad keessatti gabaase. Albaaniin sahiiha godheera.

[٩٥٤] Bukhaariitu Adab Almufrad keessatti gabaase. Albaaniin sahiiha godheera.

[٩٦١] Muslimtu gabaase.

[٩٦٢] Muslimtu gabaase.

[٩٦٣] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[٩٦٤] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[٩٦٥] Muslimtu gabaase.

[٩٦٦] Suurat Alhadiid: ٩. Abuu Daawudtu gabaase. Albaaniin hasan godheera.

[٩٩٧] Tirmiziitu gabaase. Albaaniin sahiiha godheera.

[٩٩٨] Bukhaariitu gabaase.

([٣٢٦]) مسلم، ٤ / ١٧٢٩، برقم ٢٢٠٣، من وفيه فعلت أحاديث عثمان بن أبي العاص ذلك، فأذهبه الله عنّي.

[٩٩٩] Muslimtu hadiisa Usmaan bin Abil Aas keessatti gabaase.
Hadiisicha keessa kana raawwannaan woswaasiin narraa deeme jechuutu jira.

([٣٢٨]) رواه ابن حبان في صحيحه، برقم ٢٤٢٧ (موارد)، وابن السنّي، برقم ٣٥١، وقال الحافظ: ((هذا حديث

[۹۹۳] Ibn Hibbaantu sahiihha isaa keessatti gabaase. Haafiz hadiisni kun sahiihha jedhe.

[۹۹۴] Abuu Daawudtu gabaase. Albaaniin sahiihha godheera.

[۹۹۵] Abuu Daawudiifi Tirmiziitu gabaasan. Albaaniin sahiihha godheera.

[۹۹۶] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[۹۹۷] Mana keessan awwala hin taasisinaa. Shayxaanni mana Suurat Albaqaraan keessatti qara’amu irraa ni baqata.” Muslimtu gabaase. Waan shayxaana ari’u keessaa kan biroo zikrii ganamaafi galgalaa, zikrii

hirribaafi dammaqqii, zikrii yeroo
mana seenaniifi bahanii, yeroo
hirribaa aayat Alkursiyyiifi aayata
dhuma suuraa Albaqaraa lamaan
qara'uu, namni “Dhugaan
gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru.
Inni tokkicha hiriyaan hin qabneedha.
Mootummaan kan Isaati. Faaruunis
kan Isaati. Inni waan hunda irratti
danda'aadha” si'a dhibba jedhe
guyyaa isaa guutuu shayxaana irraa
tika isaaf taati; akkuma kana
azaaniinis shayxaana ari'a.

[۹۹۴] Mu'uminni cimaan caalaafi
gama Rabbiitti mu'umina dadhabaa
irra filatamaadha. Hunda
keessaawuu khayriin ni jira. Waan si
fayyadu irratti jabaadhu. Rabbiin

gargaarsifadhu. Hin dadhabin. Yoo waa tokko si tuqe “osoo ani akkana hojjadhee waan akkanaa akkanaa ta’aa” hin jedhin. Garuu “Rabbitu murteesse inni waan fedhe hojjata” jedhi. Muslimtu gabaase.

[۹۸۹] Kitaaba Azkaaraa kan Annawawii ilaali.

[۹۸۸] Bukhaariitu hadiisa Ibn Abbaas keessatti gabaase.

[۹۸۹] Bukhaariitu gabaase.

[۹۸۱] Gabricha Muslimaa kamuu haa ta’uu yeroo dhukkubsataa duuti isaa hin geenye gaafatee si’ a torba kana jedhe Rabbiin isa fayyisu malee hin hafu.” Tirmiziitu gabaase.

Albaaniin Sahiih Aljaami'iin
keessatti sahiha godheera.

[۹۸۰] Tirmizii, Ibn Maajaafî
Ahmadtu gabaasan. Albaaniin
sahiiha godheera.

[۹۸۱] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[۹۸۲] Bukhaariitu gabaase.
Hadiisicha siwaakkachuunis ni jira.

[۹۸۳] Tirmiziifi Ibn Maajaatu
gabaasan. Albaaniin sahiha
godheera.

[۹۸۴] Abuu Daawudtu gabaase.
Albaaniin Sahiih Aljaami'iin
keessatti sahiha godheera.

[۹۹۰] Muslimtu gabaase.

[۹۹۹] Muslimtu gabaase.

[۹۹۸] Muslimtu gabaase.

[۹۹۹] Ibn Maajaafi Ahmadtu gabaasan. Albaaniin sahiiha godheera.

[۹۹۱] Ibn Maajaatu gabaase. Albaaniin sahiiha godheera.

[۹۹۰] Alhaakimtu gabaase. Sahiiha godhee Zahabiin isa deeggare.

[۹۹۸] Sa'iid bin Almusayyib ni jedhe: “Abuu Hurayraa boodaanin daa'ima yakka homaa hin hojjanne irratti salaate. Kan inni du'aa'ii kana

kadhatun dhagahe.” Maaliktu Muwaxxa’i keessatti gabaase. Shu’aybiin sanada isaa sahiihha godheera.

[١٩٨] Mughnii Ibn Qudaamaafi Duruus Almuhimmaa kan Ibn Baaz Ilaali.

[١٩٩] Hasan daa’ima irratti Faatihat Alkitaabiin qara’a ture.

[١٢٤] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[١٢٥] Azkaara Nawawii ilaali.

[١٢٦] Abuu Daawudiifi Ahmadtu gabaasan.

[۹۷۸] Nabiyyiin (saw) yeroo du'aa awwalanii raawwatan bira dhaabbatanii “obboleessa keessaniif araarama kadhaa. Sabaata kadhaafii. Inni amma ni gaafatama” jedhu. Abuu Daawudiifi Alhaakimtu gabaasan. Alhaakim sahiiha godhee Zahabiin isa deeggare.

[۹۷۹] Muslimtu gabaase.

[۹۸۰] Abuu Daawudiifi Ibn Maajaatu gabaasan.

[۹۸۱] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[۹۸۲] Abdullaah bin Azzubeer yeroo kakawwee dhaga'e haasaa dhiisee kana jedha. Muwaxxa'i keessatti

gabaafame. Albaaniin sahiiha
godheera.

[٩٤٨] Abuu Daawudtu gabaase.
Albaaniin sahiiha godheera.

[٩٤٩] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[٩٤٧] Abuu Daawudtu gabaase.
Albaaniin sahiiha godheera.

[٨٠٠] Bukhaariitu gabaase.

[٨٠٩] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[٨١٨] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[٨٠٩] Tirmiziitu gabaase. Albaaniin sahiihha godheera.

[٨١٠] Abuu Daawudtu gabaase.
Albaaniin Sahiih Aljaami'iin
keessatti sahiihha godheera.

[٨١١] Ibn Maajaatu gabaase. Haafiz hasan godheera.

[٨١٢] Tirmiziitu gabaase. Albaaniin sahiihha godheera.

[٨١٣] Nasaa'iin qofti odo hafuu
arba'aatu gabaasan. Albaaniin
sahiihha godheera.

[٨١٤] Bukhaariitu gabaase.

[٨١٥] Muslimtu gabaase.

[٨٩٨] Muslimtu gabaase.

[٨٩٩] Abuu Daawudiifi Ibn Maajaatu gabaasan. Albaaniin sahiiha godheera.

[٨٩٨] Muslimtu gabaase.

[٨٩٩] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[٨٩٨] Muslimtu gabaase.

[٨٩٩] Bukhaariitu gabaase.

[٨٩٩] Tirmizii, Ahmadiifi Abuu Daawudtu gabaasan.

[٨٩٨] Nasaa'iin qofti odoo hafuu arba'aatu gabaasan. Albaaniin sahiihha godheera.

[٨٩٩] Abuu Daawudiifi Ibn Maajaatu gabaasan.

[٨١٤] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[٨٨٦] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[٨٨٧] Tirmiziitu gabaase. Albaaniin sahiihha godheera.

[٨٨٨] Tirmiziitu gabaase. Albaaniin sahiihha godheera.

[۸۸۹] Warra sunanaatu gabaasan.

Albaaniin sahiiha godheera.

Ergamaan Rabbii (saw) yeroo
taa'icha kamuu taa'an kanaan
xumuru turan.

[۸۸۱] Ahmadiifi Nasaa'iitu
gabaasan.

[۸۸۲] Tirmiziitu gabaase. Albaaniin
Sahiih Aljaami'iin keessatti sahiiha
godheera.

[۸۸۳] Muslimtu gabaase. Gabaasa
biraa keessatti immoo “dhuma
suuraa Kahf irraa” jedha.

[۸۸۴] Abuu Daawudtu gabaase.
Albaaniin Hasan godheera.

[٨٨] Bukhaariitu gabaase.

[٨٩] Nasaa'iifi Ibn Maajaatu gabaasan. Albaaniin sahiiha godheera.

[٩٩] Ahmadtu gabaase. Albaaniin Sahiih Aljaami'iin keessatti sahiiha godheera.

[٩٧] Ibn Assunniitu gabaase.

[٩٨] Ahmadiifi Ibn Assunniitu gabaasan. Albaaniin sahiiha godheera.

[٩٩] Azzukhruf ١٩-٢٠.

[۸۹۶] Abuu Daawudiifi Tirmiziitu gabaasan. Albaaniin sahiihha godheera.

[۸۹۷] Azzukhruf ۱۹-۲۰.

[۸۹۸] Muslimtu gabaase.

[۸۹۹] Alhaakimtu gabaasee sahiihha godhe. Zahabiinis isa deeggare. Ibn Baaz sanada Isaa Tuhfat Al-Akhbaar keessatti Hasan godhan.

[۹۰۰] Tirmiziifi Alhaakimtu gabaasan. Albaaniin hasan godheera.

[۹۰۱] Abuu Daawudtu gabaase. Albaaniin sahiihha godheera.

[۸۷۰] Ahmadiifi Ibn Maajaatu gabaasan.

[۸۷۹] Ahmadiifi Tirmiziitu gabaasan. Albaaniin sahiiha godheera.

[۸۷۸] Tirmiziitu gabaase. Albaaniin sahiiha godheera.

[۸۷۹] Bukhaariitu gabaase.

[۸۸۰] Muslimtu gabaase.

[۸۸۱] Muslimtu gabaase.

[۸۸۹] Nabiyyiin (saw) yeroo hajjii yookiin umraa irraa deebi'an jedhutre. Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[808] Ibn Assunniitu gabaase.
Albaaniin Sahiih Aljaami'iin
keessatti sahiiha godheera.

[809] Muslimtu gabaase.

[810] Abuu Daawudtu gabaase.
Albaaniin sahiiha godheera.

[800] Tirmiziitu gabaase. Albaaniin
Sahiih Aljaami'iin keessatti sahiiha
godheera.

[809] Nasaa'iifi Alhaakimtu
gabaasan. Albaaniin sahiiha
godheera.

[808] Abuu Daawudtu gabaase.
Albaaniin hasan godheera.

[809] Muslimtu gabaase.

[810] Bukhaariitu Ammaar irraa mawquufa godhee mu'allaqaan gabaase.

[811] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[812] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[813] Abuu Daawudiifi Ahmadtu gabaasan. Albaaniin sahiiha godheera.

[814] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[815] Muslimtu gabaase.

[898] **Bukhaariitu Adab Almufrad keessatti gabaase.** Albaaniin sahiiha godheera.

[899] **Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.**

[898] **Bukhaariitu gabaase.** Wahiin itti akeekan kan jedhame keezzaraadha.

[899] **Abuu Daawudiifi Ahmadtu gabaasan.** Albaaniin hasan godheera.

[890] **Tirmiziitu gabaase.** Albaaniin hasan godheera.

[899] **Muslimtu gabaase.**

[۸۹۸] Bukhaariitu gabaase.

[۸۹۹] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[۸۱۰] Bukhaariitu gabaase.

[۸۱۰] Arba'aatu gabaasan.
Albaaniin sahiiha godheera.

[۸۱۱] Muslimtu gabaase.

[۸۱۲] Ahmadiifi Maaliktu gabaasan.
Albaaniin Sahiih Aljaami'iin
keessatti sahiiha godheera.

[۸۱۳] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[885] Ahmadtu gabaase. Shu'ayb Al-Arnaa'uuxiin sanada isaa sahiiha godheera.

[886] Bukhaariitu gabaase.

[887] Muslimtu gabaase.

[888] Abuu Daawudiifi Tirmiziitu gabaasan. Albaaniin sahiiha godheera.

[889] Tirmiziifi Nasaa'iitu gabaasan. Albaaniin sahiiha godheera.

[890] Muslimtu gabaase.

[891] Muslimtu gabaase. Akka Ibn Al-Asiir jedhatti haguuguun itti

fedhame yeroo garii gosa zikrii
wahii irraa dagachuudha.

[899] Tasbiiha jechuun Rabbiin
qulqulleessuu, tahliilli ‘laa ilaaha
illallaah’ jechuu yoo ta’u takbiiraan
immoo Rabbiin guddisuudha.

[898] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[899] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[89□] Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

[890] Muslimtu gabaase.

[899] Muslimtu gabaase.

[8⁹⁸] Tirmiziitu gabaase. Albaaniin Sahiih Aljaami'iin keessatti sahiiha godheera.

[8⁹⁹] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.

[8⁹⁺] Muslimtu gabaase.

[8⁺⁰] Muslimtu gabaase. Abuu Daawud dabalee yeroo namichi deemu “toltuu harka isaa guuttateera” jedhaniin.

[8⁺⁹] Muslimtu gabaase. Gabaasa Muslim keessatti “himoonni kun addunyaafi aakhiraan kee walitti siif qabdi.”

[8۱۸] Tirmiziifi Ibn Maajaatu gabaasan. Albaaniin Sahiih Aljaami'iin keessatti sahiiha godheera.

[8۱۹] Ahmadtu gabaase. Sananni isaa sahiiha.

[8۲۰] Abuu Daawudiifi Tirmiziitu gabaasan. Albaaniin Sahiih Aljaami'iin keessatti sahiiha godheera.

[8۲۱] Bukhaariifi Muslimtu gabaasan.